

امام حسین و زیبید

مختصر اعظم پاکستان شیخ الحدیث والقرآن
تعالیٰ طین

مختصر مکار فیض حملہ اوری
مولانا محمد فیض حملہ اوری

بالتفصیل
لماجع محمد حملہ اوری بھی

قائل

ادارہ تالیفات اویسیہ

0321-6820890
محمد الدین سیرانی روڈ، سیرانی مسجد بہاولپور
0300-6830592



(الصلوٰۃ والسلام) علیکم بارکات اللہ علیکم

جملہ حقوقِ حق ناشر حفظ ہے

حسین رضی اللہ عنہ و یزید

مصنف

فیض ملت، آفتابِ اہلسنت، امام المذاہرین، رئیس المصنفین

حضرت علامہ الحافظ محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی

با اهتمام

حضرت علامہ مولانا حمزہ علی قادری

ناشر

ادارہ تالیفات اویسیہ اسلامی کتب کامرز

محکم دین سیرانی روڈ سیرون سیرانی مسجد بہاول پور

رابطہ نمبر: 0321-6820890 اور 0300-6830592

لیفہ سست مضمون

صفحہ نمبر

مضمون

نمبر شمار

8	بشارت ولادت امام حسینؑ	۱
9	بچپن حسینؑ کا	۲
10	فتھ امام حسینؑ	۳
11	امام حسینؑ رسول اللہؐ کی نگاہ میں	۴
11	ابراہیم حسینؑ پر قربان	۵
13	امام حسینؑ کا دور عثمانی میں دور جوانی	۶
14	فضائل امام حسینؑ	۷
23	حسینؑ کی عبادت و ریاضت	۸
24	فرمودات و ارشادات	۹
26	تجھی امام حسینؑ	۱۰
27	قدروالے قدر جانتے ہیں حسینؑ کی	۱۱
27	امام حسینؑ اور فاروق اعظمؑ	۱۲
29	امام حسینؑ نہ صرف جگر گو شہ بکھرے صحابی رسولؐ بھی ہیں	۱۳
32	بیعت یزید	۱۴
33	علم غیب نبویؐ کی جھلک	۱۵
38	حق حسین برحق حسینؑ	۱۶
41	یزید ذیلیل و خوار اور بد کردار	۱۷
42	ربانی علمائے امت کا فیصلہ	۱۸
45	فہرست یزید کے گندے کرتوت کی	۱۹
47	اہل مدینہ پر ظلم و ستم	۲۰
48	دریں مجرمت یزید پرستوں کے لئے	۲۱
48	اہل مدینہ کے گستاخ کی سزا	۲۲
58	حدیث قطعنیہ اور یزید	۲۳
60	غزوہ قطعنیہ میں یزید امیر نہیں بھگوڑا ہے	۲۴

نام کتاب

﴿حسینؑ و یزید﴾

مصنف

فیض ملت، آفتابِ الملت، امام المناظرین، رئیس المصنفین

حضرت علامہ الحافظ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی
جامع ادیسہ رضویہ بہاول پور

باہتمام : حضرت علامہ مولا ناجزہ علی قادری

اشاعت : ربیع الاول ۱۴۲۷ھ ، اپریل 2006ء

صفحات : 64

قیمت : روپے

کپوزر : محمد سلمان رضا عطاری (0300-2809884)

نائل ڈیزائنگ : (الریحاء گرافیکس فون موبائل: (0300-2809883)

پروف ریڈنگ : ابوالرضاء محمد طارق قادری عطاری

فون موبائل : (0300-2218289)

﴿فاسٹر﴾

ادارہ تالیفات ادیسہ اسلامی کتب کا مرکز

محکم دین سیر انی روڈ بیرون سیر انی مسجد بہاول پور

رائٹنگ: 0321-6820890 اور 0300-6830592

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانى بعده
وعلى آله واصحابه اجمعين.

اما بعد! قیامت قریب آگئی اس کی علامات میں ایک یہ کہ اسلاف کو گالی دی جائیں گی،
گالی سے مراد تنقیص اور عیوب شماری ہے۔ اہل اسلام کو یقین کم آئے گا کہ ایسے بدجنت بد
نصیب ہی اب ہیں جو کہتے ہیں کہ حسینؑ ایسے ہی آل رسول ﷺ کو سید کہنا، مانا صحیح نہیں
کیونکہ جس روایت سے ان کا سید ہونا ثابت ہے ایسے تو سیدنا ابو بکر و عمرؓ کے لئے بھی
ثابت ہے تو پھر وہ اور ان کی اولاد کو سید نہیں کہا جاتا وغیرہ اور یہ سلسلہ خوارج و نواصب یعنی
دشمنان الہمیت نے عرصہ دراز سے چلایا ہوا ہے۔ اس قسم کے بیسوں مسائل کفرے کے
اور کرتے رہیں گے لیکن عوام بلکہ بہت سے پڑھے لکھے اس لئے نہیں مانتے کہ کیا ایسے لوگ
بھی ہو سکتے ہیں جو الہمیت کے لئے ایسا کہیں۔ یہ ان کے مطالعہ کی کمی یا پھر روؤرعایت
اور مصلحت کیشی ہو گی ورنہ اس وقت قوم بے خبر نہیں کہ امام حسینؑ جیسی پاکیاز اور بلند قدر
شخصیت کو با غی و وزنی، لا پچی (معاذ اللہ) اور رسوائے زمانہ اور جس کے دوزخی ہونے اور
فاسق و فاجر ہونے کے متعلق اہل اسلام کو ذرۂ برادر شک نہ تھا یعنی یزید کو امام برحق اور قطعی
جتنی ثابت کرنے پر ایڑی پوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے اور وہ لوگ کوئی گوش نہیں ٹوٹیں گے بلکہ
عوام میں مشہور و معروف اور دین کے بڑے تھیکدار یعنی علمائے دیوبند اور ان کے ہماؤں ممکن
ہے میرے ان دونقطوں پر کوئی اعتبار نہ کرے، ان کی تحریریں ملاحظہ ہوں اور چند مولویوں
کے نام سن لیں۔

(۱) مفتی محمد شفیع دیوبندی۔ (۲) ابوالاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی۔ (۳) مولوی

شمیش الحق افغانی۔ (۴) مولوی بشیر احمد پسروری۔ (۵) مولوی عبدالستار تونسی
وغیرہ وغیرہ عبارات حاضر ہیں تا کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔

۱)..... مولوی سید انوار الحق سہیل شاہ خطیب جامع مسجد و مہتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ ٹوبہ بیک
سنگھ لاہور۔

یہ خارجی مولوی لکھتا ہے کہ میں سید نا یزید کی روح کو سلام بھیجنتا ہوں جو کہ
امیر المؤمنین ہے۔

۲)..... مولوی ابوالوحید غلام محمد مولوی فاضل و فاضل دیوبند راجن پور ڈیرہ غازیخان لکھتا
ہے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر مجاہد اسلام ہیں اور میرا ایمان ہے کہ وہ
ضروری جتنی ہیں اور مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جتنی ہیں لیکن
حضرت یزید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جتنی ہیں ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔

(کتاب رشید ابن رشید، صفحہ ۳۲۲-۳۲۳)

۳)..... مولوی غلام مرشد سابق خطیب شاہی مسجد لاہور نے لکھا ہے کہ
جو ازالات امیر المؤمنین یزید پر لگائے جاتے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ
آنحضرت ﷺ کی صحبت باہر کرت میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام نے یزید کی
بیعت کر کے اپنا امام تسلیم کر لیا۔ لہذا یزید کی صداقت کا اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔

(کتاب رشید ابن رشید، صفحہ ۳۲۳)

۴)..... مولوی ظہیر الدین چک نمبر ۳۱۵ گ ب ضلع لاہل پور نے ابو یزید کے ایک خط کے
جواب میں لکھا ہے کہ:

محترمی بٹ صاحب

آپ نے یزید کے متعلق دریافت کیا ہے کہ وہ کیسے شخص تھے اور ان کے بارے میں

ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ حسینؑ کے متعلق یزید کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو علم تھا۔ یعنک یزید خلیفہ برحق تھے۔ (کتاب رشید ابن رشید، صفحہ ۳۲۹)

(۵)مولوی مفتی بشیر احمد خطیب جامع مسجد پرورد ضلع سیالکوٹ نے تحریر کیا ہے کہ شیعہ مذہب میں فاسق اور ظالم کی بیعت بدترین گناہ ہے اور یزید فاسق و کافر تھا تو سید نازین العابدین نے یزید کی بیعت کیوں کی۔ (کتاب رشید ابن رشید، صفحہ ۳۲۲)

(۶)مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری مہتمم مرکزی تنظیم اہلسنت بیرون بوجہ گیث ملتان، نے لکھا ہے کہ محترم المقام۔ علیکم السلام

یاد فرمایا، شکریہ! جواباً عرض ہے کہ یزیدؑ کے مسلمان ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے جو لوگ اس زمانے میں یزید کو کافر کہتے ہیں ان کا اپنا ایمان مشتبہ ہے البتہ اس کے فتن و فجور میں اختلاف ہے بعض اکابرین امت نے اس کے فتن و فجور کو تسلیم کیا ہے اس فتن و فجور کی مہم میں زیادہ تر اعداء دین کا ہاتھ کام کرتا ہے فرض حال اگر فاسق تسلیم ہی بھی کر لیا جائے تو آج کل کے فاسق کہنے والوں سے تو زیادہ فاسق قطعاً نہیں ہو گا۔

(کتاب رشید ابن رشید، صفحہ ۳۶۳)

پھر ڈھیٹ ایسے کہ انہیں ایسی حرکت کے متعلق پوچھا جائے تو کہیں گے توبہ، توبہ، ہم تو ایسے نہیں ہیں اگر موقع مل جائے تو پھر امام حسینؑ کو حسب دستور اس طرح اور یزید کو امام برحق کہتے نہیں تھکیں گے۔ فقیر نے ان کے استدلال حدیث قسطنطینیہ کی قلعی کھوئی۔ اس کا نام رکھا ”شرح حدیث قسطنطینیہ“۔ چونکہ وہ ”انوار لاثانی“ کی نذر کر چکا ہوں۔

حضرت علام ابوالضیاء غلام نبی صاحب جماعتی مظلہ کے حکم پر محترم شریف کی مناسبت سے مختصر مضمون ”شهادت حسین اور بغاوت یزید“ کے نام ”ترجمان لاثانی علی پور سید اس ضلع سیالکوٹ کی نذر ہے۔

گر قبول اقتدر ہے عز و شرف (اویسی غفرلہ بہادر پور یوم الجمعہ)

حضرت امام حسینؑ سرمایہ اسلام اور مایہ جان واہیان ہیں ان کا ذکر خیر ہماری نجات آخری و سعادت ابدی کا موجب ہے۔ فقیر نے سینکڑوں کتب و رسائل لکھے اور زندگی نے وفا کی تو اور بھی لکھے گا (ان شاء اللہ تعالیٰ) لیکن یہ لحاظ جو ذکر حسینؑ میں گزر رہے ہیں کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ۔

میں بیہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے
علماً ماقبل مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے۔

بپھر حرف قل هو اللہ در کتاب
در میان امت آن کیوان جتاب
سر ابراہیم اللہ عز و جلہ دا سماعیل اللہ عز و جلہ بود
یعنی آن ا جمال را تفصیل بود
رمز قرآن از حسین اموخت خیم
زا تشن او شعلہ ها اند و خیم



لے لیا۔ اس کے بعد ہادی کائنات ﷺ نے حکم دیا۔ میرے لاٹے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرو اور عقیق کرو۔ چنانچہ ساتویں روز یہ سنت ادا کر دی۔

(متدرک حاکم، ج ۳، صفحہ ۱۶۷)

نام

ایک روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے ”حرب“ نام رکھا، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ میرے بیٹے کا نام ”حسین“ رکھا جائے۔ (اسد الغاب، ج ۲، صفحہ ۱۸)

پروردش

جب چشم رسول کا یہ نور ”حسین“ ظاہر ہوا تو امام حسنؑ ابھی مذہت رضاعت میں تھے۔ سیدالبشرؑ نے اپنی چھی ام الفضل سے ارشاد فرمایا، میرے بچے کو آپ دودھ پلایا کریں۔ اس طرح جنت کے نوجوانوں کے سردار نے فاطمہ بنت محمد (رضی اللہ عنہا و آله و سلم) کا دودھ پینے کی بجائے، ام الفضل بنت حارث کا دودھ پیا اور ان کی گود میں چلا گیا۔ اور پھر ام الفضل کی حضرت حسینؓ سے اولاد سے بڑھی ہوئی محبت کے پیش نظر شافع محدثؑ نے ان کی پروردش بھی ام الفضل کے سپرد کر دی۔

تعلیم و تربیت

یہ فخر حسن و حسین اور زید و علی (علیہم الرضوان) کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ ان نفوس قدسی کی اصلاح و تربیت خود معلم کائناتؑ نے فرمائی۔ آداب نماز آپ نے اسی عمر میں رہنمائے ہدایتؑ سے یکھ لئے تھے۔

بچپن حسینؓ کا

حسین کریمینؓ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دن مسجدِ نبوی میں جا پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ

بشارت ولادت امام حسینؓ

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن ام الفضل بنت حارث، رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے رات بڑا عجیب اور بھیساں کی خواب دیکھا ہے، حضورؐ نے فرمایا بیان کرو! خاتون نے عرض کیا، ”وہ خواب اس قدر ڈراونا اور خطرناک ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ رحمتِ عالمؑ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ کوئی مضاائقہ نہیں، تم اپنا خواب ضرور بیان کرو، عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ آپؑ کے جسدِ اطہر کا ایک گلزار کاث کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔“ شاہ موجوداتؑ نے فرمایا! اس میں اس قدر گہبراہست کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نور نظر فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کو بینا عطا فرمائے گا جسے تم گود میں آخاوی گی۔“

(متدرک حاکم صفحہ ۱۷۶)

ولادت با سعادت

سرورِ کوئینؓ کی زبان مبارک سے یہ تعبیر سن کرام افضل مسرو و مطمین ہو کر چلی گئیں اور بات آئی گئی ہو گئی۔ زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ ۲۷ھ کے شعبان کا چاند نمودار ہوا اور جب شعبان کی چار تاریخ آئی تو امام الفضل کا خواب پورا ہو گیا اور مخبر صادقؑ کی بتائی ہوئی تعبیر کی صداقت آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر ہوئی۔ حضورؐ نومولود کی خبر پا کر سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کے دولت کدہ پر تشریف لے گئے اور ایک پُرسترت آواز میں ارشاد فرمایا ”میرے بیٹے میرے جگر کے گلزار کو میرے پاس لاؤ۔ جگر گوشہ رسولؓ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر دست نبیؑ میں دے دیا گیا۔ سید العرب الجمیؑ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں بکسر کی اور پھر نہماہیت پیار سے اپنی آغوش نبوت میں

ایک بوڑھا بدوی وضو کر رہا ہے مگر محیک نہیں کر رہا، ہر دو صاحبزادگان نے سوچا کہ اس بوڑھے کوٹو کے بغیر کس طرح وضو صحیح کرایا جائے۔ اپنے حضرت امام حسین نے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی جان میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو تو بتادیں۔ ان الفاظ پر بوڑھا بدوی بھی چونکا اور حضرت امام حسین کو وضو کرتے دیکھنے لگا۔ چنانچہ امام عالی مقام نے وضو کرتے رہے اور حضرت حسن اور بوڑھا بدوی دیکھتے رہے۔ نتیجہ یہ تلاکہ بوڑھے نے اپنی غلطی سمجھ لی اور وضو صحیح کرنا سیکھ لیا۔

فقہ امام حسین

آپ نے دینی و فقہی مسائل بچپن میں سمجھ لئے تھے۔ ابو جوزاء نے عرض کی کہ اپنے جد مکرم کا کوئی واقعہ سنائی، آپ نے فرمایا کہ،

ایک روز میں رسول خدا نے کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت پکھ کھوریں آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک دائۃ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اور یہاں کی جمال نبوت اور جلال رسالت (صلوات) یک جا ہو گئے اور مجھے تنبیہ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ”بیوی تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ خوری آل محمد (صلوات) پر حرام، ہدایہ جائز اور حلال ہے۔“ اس نصیحت کے ساتھ ہی آقائے دو جہاں نے انگلی ڈال کر میرے منہ سے وہ کھورنکاں دی۔ یہ روایت صحابہ کی ہے اور امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ رازمد ہیں ”صحیح“ پیغمبر کے اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔ (بخاری، ج ۲، ص ۱۲۹)

علوی و فاطمی تربیت

وصال رسول نے کے بعد خیال فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا تربیت حسین نے کی آرائش وزیارت میں محو ہو گیا۔ نیک ماں میں اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو قوم کے مقدار کا ستارہ

بنا دیتی ہیں، چنانچہ حضرت فاطمہ بنت محمد (رضی اللہ عنہا و آنہا) نے آپ کی تربیت فرمائی اور حضرت علی نے آپ کو لکھاڑھنا، سواری، ششیر زدنی، نیزہ بازی اور دوسرے فنون جنگ سکھائے۔ اس کے بعد مدینۃ النبی نے جو علوم و فنون کا مرکز تھا وہاں جید اصحاب رسول نے یک صالح اور روح پرور ماحول میں سرچشمہ، علم و فضل سے کم پیش کیا۔ یہاں تک کہ نبیرہ رسول سیرت و اخلاق کا معمدار بن گیا اور میدان کر بلماں قصر شجاعت کی پہلی ایسٹ رکھی اور پوری امت کو اس کی تعمیر میں مصروف کر کے اپنے محبوب نانا نے کے پاس چلے گئے۔

امام حسین رضی اللہ عنہ رسمیت رسول اللہ علیہ السلام کی زگاہ میں

حضور سرور کوئین نے فرمایا:

حسین منی وانا من حسین احب الله من يحب الحسين حسین سبط من الاسبطات
(بخاری و ترمذی)

یعنی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھ کے جو حسین کو محبوب رکھتا ہے۔ حسین گروہ اسبطات میں سے ایک سبط ہے۔

ابراہیم حسین پر قربان

ایک دن حضور انور حضرت حسین (صلوات)، کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم (صلوات) کو باسیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے، کہ جبراہیل (صلوات) حاضر ہوئے اور عرض کیا، خداوند تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے ہاں یک جانہ رہنے دے گا۔ ان میں سے ایک کو واپس بٹالے گا۔ اب ان دونوں میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اگر حسین (صلوات) رخصت ہو جائیں تو ان کے فراق میں فاطمہ، علی (صلوات) اور میری جان سوزی ہو گی اور اگر ابراہیم (صلوات) وفات پا جائیں زیادہ الہم میری جان پر ہی ٹوٹے گا اس

لے مجھے اپنا غم ہی پسند ہے۔ اس واقعہ کے تین روز بعد حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔
جب بھی حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی پیشانی پر بوس دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے۔ اس پر میں نے اپنے بیٹے
ابراہیم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قربان کر دیا۔

نکتہ

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین میں لکھا ہے۔ یہ ہے کہ شہادت
در اصل فضائل و مکالات کے سلسلے میں ایک اہم حقیقت ہے اور ”نبوت کبریٰ“ جو تمام فضائل
و مکالات کی آخری حد ہے، ضرور تھا کہ اس میں یہ کمال بھی شریک ہو لیکن منصب نبوت کی
شان عالی میں اس سے اختلال کا اندیشہ تھا۔ اسی لئے قدرت نے اس کمال کو بجائے باپ
کے بیٹے کی طرف منتقل کر دیا، شاہ صاحب نے صحیح حدیثوں سے امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقط نواسہ
ہونا نہیں، بلکہ ابن بیٹا ہونا ثابت کیا ہے اور عقلی طور پر اپنے اس دعویٰ کو اس سے مدل کیا ہے
کہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے دوسرے نصف حصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلقہ
بہت زیادہ مشابہ تھے۔

پس جو کمال بیٹے کو ملا وہ باپ ہی کو ملا۔ کیونکہ گوانجیل میں ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ
سب بیٹے کا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بیٹے کا ہے سب باپ کا
ہے اور اس بنیاد پر شاہ صاحب کا یہ قول بالکل درست ہے کہ جو فضیلت امام حسن و حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو حاصل ہوئی وہ در اصل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں داخل بھی جائے گی۔ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظرؤں میں سیدنا صدیق اکبر اور امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے منصب غلافت سنجھا لاتوان کے عہد میں سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سات آٹھ برس
سے زیادہ نہ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر نبیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قدردان تھے۔

سیدنا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت احترام و تعظیم کرتے تھے یہی کیفیت
حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی۔ سیدنا عمر و امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی محبت و پیار
کی داشتائیں ہیں جنہیں فقیر آئے تفصیل سے عرض کرے گا۔

﴿امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور عثمانی میں دور جوانی﴾

حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوان ہو چکے تھے
چنانچہ سب سے اول اسی عہد میں میدانی جہاد میں قدم رکھا۔ (ابن اثیر اور طبری) ۳۰۷ھ میں
طبرستان کے معرکہ میں مجاہد انش شریک ہوئے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس
لشکر میں شامل تھے جس نے مصر کو فتح کرنے کے بعد افریقہ سے ہوتے ہوئے مغرب تک
پیش قدی کی تھی۔

فتنه کے زمانہ میں جب باغی حضرت عثمان ذی النورین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کئے ہوئے تھے
تو حضرت حسن و حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کو تھیلی پر رکھ کر کاشانہ عثمانی کی حفاظت کر رہے
تھے یہی وجہ ہے کہ باغیوں کو سامنے سے حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے پچھلی
طرف سے چھپ کر حملہ کیا۔

ابن عمر اور امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ایک روز ابن عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سامنے سے آرہے ہیں ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اس زمانہ میں اہل آسمان کے نزدیک
سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہیں۔

دور سیدنا امیر معاویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جب خلافت پر در کردی گئی تو سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی برادر بزرگ کے فیصلے کے سامنے

سرخ کرنا پڑا۔ آپ اس زمانے کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوئے۔ چنانچہ ۳۹ھ میں قسطنطینیہ کی مشہور مہم میں مجاہداتی شرکت کی تھی۔ مشہور عیسائی مورخ گہن اپنی کتاب ”زوال روما“ میں اس ہم میں آپ کی شرکت اور آپ کے شجاعانہ کارنا میں کاذک کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ حسن کے برادر خور حسین نے اپنے باپ کی شجاعت بسالت سے بطور ورثتہ پایا ہے چنانچہ قسطنطینیہ میں عیسائیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں حضرت حسین نے امتیازی کارنا میں انجام دیے۔ امیر معاویہ اور اہلیت کے واقعات نیاز مندانہ فقیر کی کتاب ”الرفاهیہ فی النابیہ عن ذمہ معاویہ“ میں پڑھئے۔

فضائل امام حسین

بیشتر فضائل میں سے چند فضائل ملاحظہ ہو:

۱)..... حضرت خذیفة الیمان نے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن حضور ﷺ کو مسرورد کیا اور وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا:

وکیف لا اسر و قد اتاني جبرئیل فبشر نی ان حسنا و حسینا سید الشباب
اہل الجنة و ابو هما افضل منهما۔ (کنز العمال، ج ۷ صفحہ ۱۰۸)

کیسے مسرورنہ ہوں جب کہ جبراہیل امین (الظہر) میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ بلاشبہ حسن و حسین (علیہما السلام) جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔

۲)..... حضرت علیؑ سے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنة و ابیک سید الشباب اہل الجنة .
(البدایہ والتبایہ، صفحہ ۳۵)

یعنی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔

۳)..... حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنۃ۔ (البدایہ والتبایہ، صفحہ ۳۵)

یعنی، حسن و حسینؑ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

۴)..... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

من سرہ ان ینظر الی رجل من اهل الجنۃ و فی لفظ الی سید شباب اہل الجنۃ فلینظر الی الحسین بن علی۔ (ابن حبان، ابویعلی، ابن عساکر، ثوب الانبار صفحہ ۱۳۹)

یعنی، حسن کے لئے باعث سرست ہو کر وہ کسی جتنی مرد کو دیکھے (اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھے) تو اس کو چاہیے کہ وہ حسین بن علی (علیہما السلام) کو دیکھے۔

۵)..... حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم ﷺ کو دیکھا کہ حسن و حسینؑ کو لئے ہوئے فرمادیتے تھے:

هذان ابني و ابنيانتي اللهم انى اجههما فاجهمما واحب من يحبهما۔ (ترمذی ثریف)

”یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھا اور ان کو بھی محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھ۔

فائدة: یہ احادیث مبارکہ آیت ذیل کی مصدقہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل لا استلکم علیه اجرًا الا الموَدة فی القربي۔ (شوری)

ترجمہ: فرمادیتے ہے لوگو! میں تم سے اس (ہدایت و تبلیغ) کے بد لے کچھ اجرت وغیرہ نہیں مانگتا، ہوائے قربات کی محبت کے۔ چنانچہ روایت اس کی موید ہے۔

(۶) دونوں میرے بیٹے ہیں۔

”من احبهما احبنی و من احبنی احبه اللہ و من احبه اللہ ادخله الجنة و من البغضهما البغضی و من البغضی البغضہ و من البغضہ اللہ ادخله النار۔“
(مدرسک حاکم، جلد ۲ صفحہ ۱۹۶)

یعنی، جس نے ان دونوں کو محظوظ رکھا اس نے مجھ کو محظوظ رکھا اور جس نے مجھ کو محظوظ رکھا اس نے اللہ کو محظوظ رکھا اور جس نے اللہ کو محظوظ رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا اور جس نے ان دونوں سے بغضہ رکھا اس نے مجھ سے بغضہ رکھا اور جس نے مجھ سے بغضہ رکھا اس نے اللہ سے بغضہ رکھا اور جس نے اللہ سے بغضہ رکھا اللہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔

(۷) حضرت ابو عیید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

والذی نفیسی بیدہ لا یبغضنا اهل الیت احدلا ادخله النار۔

(ررقانی علی المواهب، صفحہ ۱۲۰ الصواب عن صحیح مسلم)

یعنی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس کی نسبتی ہمارے اہلیت سے بغضہ رکھا۔ اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔

(۸) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور سید العالمین ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھ پر حسن اور دوسرا کندھ پر حسین تھے۔ آپ کبھی حسن (ؓ) کو چوتھے اور کبھی حسین (ؓ) کو ایک شخص نے آپؓ سے کہا یا رسول اللہؓ، آنکہ لتجھما؟ فقال من احبهما فقد احبني ومن البغضهما فقد ابغضني۔
(البدایہ والنہایہ، جلد ۸ صفحہ ۳۵)

یعنی، آپ ان دونوں کو محظوظ رکھتے ہیں؟ فرمایا، جس نے ان دونوں کو محظوظ رکھا پس اس نے مجھے محظوظ رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغضہ رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغضہ رکھا۔

(۹) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا استکم علیه أجرًا إلا المودة في القربى ان تحفظوني اهل بيتي وتودوهم بي۔
(درمنشور)

یعنی، لوگوں میں تم سے اس ہدایت و تبلیغ کے بد لے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ سوائے قرابت کی محبت کے اور یہ کہ تم میری حفاظت کرو۔ میرے اہل بیت کے معاملے میں اور میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔

فائده:..... ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جس کا ایمان تابناک ہے وہ اہلیت اور سادات سے محبت کرتا ہے جس کا دل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے وہ ان سے بغضہ اور نفرت کرتا ہے۔

(۱۰) حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حسین کریمین (ؓ) کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

من احبنی واحب هذین واباهما وامهمما كان معی فی درجتی يوم القيمة.

یعنی، ”جس نے مجھ کو محظوظ رکھا اور ان دونوں (حسن و حسین) اور ان کے باپ (علیؓ) اور ان کی ماں (فاطمہ رضی اللہ عنہا) کو محظوظ رکھا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہو گا۔“

(۱۱) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا:

من احباب الحسن والحسین فقد احبني ومن ابغضهما فقد البغضي۔

(ابن ماجہ صحیح ۲۶۰ مدرسک حاکم، جلد ۲ صفحہ ۱۹۶)

یعنی، جس نے حسن و حسین (ؓ) کو محظوظ رکھا اس نے درحقیقت مجھے محظوظ رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغضہ رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغضہ رکھا۔

(۱۲) حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ حسن و حسین

سے بُر فرمائی اور یہ عرصہ سات سال کا ہے۔ کیونکہ جب حضور سردار عالم ع کا وصال ہوا۔ اس وقت امام حسین ع کی عمر بقول بعض مؤرخین سات سال تھی اور یہ سعادت ایسی ہے کہ جسے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت معلوم ہے اور بزرگی و فضیلت لیکن زیاد غبیث کو امام حسین ع کے مقابلہ میں لانا سفاہت و حماقت ہے۔

(۱۶)..... حضرت اسامہ بن زید رض فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کپڑے میں لٹپی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ فکشہ فاذا ہو حسن و حسین علی و رکیہ فقال هذان ابنا و ابنا ابنتی اللهم انی احبهما فاحبھما و احباب من يحبھما۔ (کنز العمال صفحہ ۱۰)

یعنی، پس آپ نے کپڑا اٹھایا تو وہ حسن و حسین ع تھے۔ فرمایا یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ اور جوان کو محبوب رکھے اس کو بھی محبوب رکھ۔

(۱۷)..... حضرت عبداللہ رض فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے: فجاء الحسن والحسين فجعلاهما يتلو ثبان على ظهره اذا سجد فاراد الناس زجرهما فلما سلم قال للناس هذان ابناي من احبهما فقد احبني۔ (البدایہ النہیا، جلد ۸ صفحہ ۳۵)

یعنی، تو حسن و حسین ع آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو وہ دونوں آپ کی پشت انور پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کو منع کریں، جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں سے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا، اس نے مجھے محبوب رکھا۔

(۱۸)..... حضرت جابر رض فرماتے ہیں کہ

۱۲)..... حضرت براء رض فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنا و حسينا فقال اللهم انی احبهما فاحبھما۔ (ترمذی ثریف) کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین ع کو دیکھا تو کہا۔ اے اللہ! میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں سوتوبھی ان کو محبوب رکھ۔

(۱۳)..... حضرت سعد بن مالک رض فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت حسن و حسین ع آپ کی پشت مبارک پر کھیل رہے تھے۔ فقلت يا رسول الله اتحبھما؟ فقال و مالي لا احبهما و انھما ريحاناتي من اللہ۔ (کنز العمال، صفحہ ۱۱)

یعنی، میں نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے بہت محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ محبت رکھوں جب کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔

(۱۴)..... حضرت زید بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرے اور حضرت حسین ع کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا۔ بیٹی! اس کو رونے نہ دیا کرو۔ الہ تعلمی ان بکاءہ ہ یو ذینی۔ (تشریف البشر صفحہ ۲۵، نور الابصار صفحہ ۱۱۲) یعنی، کیا تمہیں معلوم نہیں اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

(۱۵)..... حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں: رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمتص لعب الحسين كما يمتص الرجل التمر۔ (نور الابصار صفحہ ۱۳۹)

یعنی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے منہ کے لعب کو اس طرح چوستے تھے جس طرح کہ آدمی کھجور کو چوستا ہے۔

فائده:..... امام حسین ع نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں اس طرح صاحبزادگی

اس سے لڑنے والا ہوں۔ اور جوان سے صلح رکھے میں ان سے صلح رکھنے والا ہوں۔

فائده: ان تمام احادیث صحیحہ سے جو ب محبت الٰل بیت اور تحریم شخص وعداوت صراحت ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام علیہم السلام ارضیان الٰل بیت نبوت کی بہت زیادہ تقطیم و تو قیر کرتے اور ان سے الفت و محبت رکھتے۔

(۲۱) حضرت حدیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضورؓ کے پیچے پڑھی۔ آپ نے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا کیا حدیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہؓ! فرمایا:

ما حاجتك غفرالله لك ولا مك ان هدا ملك لم ينزل الأرض فقط قبل هذه اللبلة استاذن ربه ان يسلم على ويشرنی بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة۔ (ترمذی، مکملۃ صفحہ ۵۷)

یعنی، تجھے کیا حاجت ہے اللہ تعالیٰ کو اور تیری والدہ کو مجھے (پھر) فرمایا، یا ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے اپنے رتبہؓ سے مجھے سلام کرنے اور مجھے بشارت دینے کے لئے اجازت مانگی ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسینؓ (ؑ) جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

(۲۲) حضرت یعلی بن مرزہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؓ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبط من الاسباط۔ (ترمذی، مکملۃ صفحہ ۵۷)

یعنی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گا۔ حسین اس باط میں سے ایک سبط ہے۔ یعنی، جیسے اولاد یعقوبؑ کی بکثرت ہے ایسے ہی امام حسینؑ کی اولاد بکثرت ہو گی۔ یہ مجرمہ غیر سے متعلق ہے کہ آج دنیا بھر

دخلت علی رسول اللہ وہ حامل الحسن والحسین علی ظہرہ وہو یمشی بهما علی اربع فقلت نعم الجمل جملکما؟ فقال ونعم الراکبان هما۔ (کنز العمال، جلد ۷، صفحہ ۱۰۸۔ البدایہ والنہایہ، جلد ۸، صفحہ ۳۶۹)

یعنی، میں رسول اللہؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ آپؓ نے صن و حسین (ؑ) کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے تو میں نے کہا (اے شہزادہ تمہارا اونٹ کتنا چھا ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ کسی شاعر نے اسے یوں ادا فرمایا۔

بہرآں شہزادہ خیر املل ☆☆ دوش ختم المرسلین نعم الجمل
۱۹) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؓ سے پوچھا گیا:

ای اهل بیتک احبابیک؟ قال الحسن والحسین! و كان يقول بفاطمه ادعی ابی فیشهمما وبغمهمما الیه۔ (ترمذی شریف، مکملۃ شریف صفحہ ۵۷)

یعنی، آپ کے اہل بیت میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، حسن و حسین (ؑ) اور آپ حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو بلا کہ تو آپ دونوں کو سوگھتے اور اپنے سینے سے چھان لیتے۔

پھول کی طرح سے سوگھتے تھے ان کو مصطفیٰ
جب کبھی ہوتے تھننا سے بھم حضرت حسین

۲۰) حضرت زید بن ارمؓ فرماتے ہیں کہ:
ان رسول اللہؓ قال لعلی و فاطمة والحسن والحسین اذا حرب لمن
حد لهم وسلم لمن سالمهم۔ (ترمذی شریف، مکملۃ شریف صفحہ ۵۶۹۔ البدایہ والنہایہ)
یعنی، علی و فاطمہ و حسن و حسین (رضی اللہ عنہم) اجمعین کے متعلق فرمایا کہ جوان سے لڑنے میں

میں حسینی سادات کی کثرت ہے بہ نسبت حسینی سادات کے۔

(۲۳) عن ابی هریرہ ﷺ قال ابصرت عیناً هاتان و سمعت رأی رسول اللہ ﷺ وہو اخذ بکفی حسین و قد ماہ علیٰ قدم رسول اللہ ﷺ وہو يقول ترق ترق قال نرق الغلام حتیٰ وضع قدمیه علیٰ صدر رسول اللہ ﷺ قال افتح فاک ثم تفل ثم قبله ثم قال اللهم احبه فانی احبه۔ (الاصابہ بن جعفر رضی اللہ عنہ)

یعنی، ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کافوں نے سنا کہ حضور ﷺ حضرت حسین ﷺ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین ﷺ کے پاؤں حضور ﷺ کے پاؤں پر رکھے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرمائے تھے اے نخے قدموں والے چڑھا چڑھا۔ چنانچہ حسین ﷺ جسم اطہر پر چڑھنے لگے یہاں تک کہ اپنے قدم حضور ﷺ کے سینہ پر رکھ دیئے، پس حضور ﷺ نے فرمایا منہ کھوں، پھر آپ ﷺ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا۔ پھر کہاں اللہ اے محبوب رکھ، کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔

فائده حس کی تربیت سرور عالم ﷺ کی گود مبارک میں ہو، حس کے منہ میں مصطفیٰ کریم ﷺ کا لعاب دہن ہواں کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

(۲۴) ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف رکھتے تھے فرمایا، وہ شوخ لا کا کہاں ہے؟ یعنی، سیدنا حسین ﷺ! سیدنا حسین ﷺ آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ ﷺ نے حسین ﷺ کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کراور اس سے بھی جو حسین ﷺ سے محبت کرے۔

فائده کبھی شان ہے حضرت حسین ﷺ کی کمحبوب خدا (علیٰ وآلہ وسلم) کی گود میں لیٹے اور کانڈھوں پر سوار ہوئے، لعاب دہن نوش فرمایا۔ طرح طرح کی نبوت نوازوں سے

نوازے گئے، سات سال مسلسل حسیب کریا ﷺ کی نگاہوں سے نوازے گئے، کیونکہ جب حضور سرور عالم ﷺ کا وصال ہوا تو امام حسین ﷺ کی عمر مبارک سات سال تھی اسی لئے ہم اہلسنت حسین کریمین ﷺ دونوں شہزادوں کو صحابی مانتے ہیں لیکن قسمت کے مارے خوارج زمانہ ان کی نہ صرف صحابیت کے مکنہ بلکہ اکثر کمالات کو مانتے ہی نہیں۔ تفصیل آتی ہے، مزید فضائل کے لئے فقیر کی کتاب ”ذکر الہمیت کرام“ کا مطالعہ کریجئے۔

﴿حسین ﷺ کی عبادت و ریاضت﴾

ان گوناں گوں صفات کی حامل یہ ہستی عبادت و ریاضت میں بھی ایک مثالی ہستی تھی چنانچہ آپ کے دن رات درس و تدریس میں گزرتے تھے اور نماز کے وضو کی تجدید فرماتے اور رکوع و تجدید کی حالت میں پوری پوری رات گزر جاتی اور چہرے کارگ ک متغیر ہو جاتا۔ جب لوگوں نے اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

”جو شخص دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے وہ قیامت کے روز مانوں رہتا ہے۔“

علم و فضل ﷺ

”استیعاب“ و ”اسد الغائب“ میں لکھا ہے کہ علمائے تاریخ ویر حضرت امام حسین ﷺ کے علم و فضل کے بارے میں متفق الرائے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ بھی بعض مسائل میں آپ کی علمی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زیر ﷺ خود بھی ایک بلند پایہ عالم اور فقیر تھے، اسی کی رہائی کے مسلمہ میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے آپ کے پاس گئے، حضرت عبداللہ بن زیر ﷺ نے پوچھا، قیدی کی رہائی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جن لوگوں کی کفالت میں لڑتے ہوئے وہ گرفتار ہواں کا فرض ہے کہ وہ اسے آزاد کرائیں۔“

خور سال بچہ کا وظیفہ

عبداللہ بن زیرؑ ہی کے استفار کے جواب میں آپ نے بچہ کے وظیفہ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ طن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آزاد ہے وہ وظیفہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔

﴿فرمودات و ارشادات﴾

افسوس کے عقیدت مندان حسینؑ نے حضرت حسینؑ کی زندگی کے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ان کے بیانوں میں شجاعت و بہادری کے واقعات ملتے ہیں لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ حضرت امام حسینؑ ایک بہت بڑے معلم اخلاق بھی تھے، ایک طرف تو آپ میدان کا رزار میں تواروں کے سامنے میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب حق و باطل میں نکراؤ اور مقابلے کا مرحلہ درپیش ہو تو حق کی حمایت اور باطل کی ہریت و سرکوبی کے لئے تیار ہو جاؤ اور اپنے مال و اسباب کے علاوہ اس پر اپنی اولاد بھی قربان کر دو۔ مگر باطل کے سامنے سرتلیم خشم نہ کرو لیکن دوسری طرف آپ کی یہ حالت ہے کہ جب گوشہ عافیت میں بیٹھتے ہیں تو اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود کے طریق کا رپ غور کرتے نظر آتے ہیں اس سلسلے میں ان کے بلند پایہ خطبات شاہد ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو:

میدان کر بلائیں امام حسینؑ پورے اطمینان سے اتر کر شکر یزید کا جائزہ لے رہے تھے کہ شکر یزید سے آواز آئی۔ حسین دیر کیوں کر رہے ہو، کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی اس بذری بانی سے حیدری خون جوش میں آگیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تباہ شکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔

فرمایا! اے باطل پستوار دین کے دشمنو! سنو! سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو

وہ کون ہے اور جس کے خون کے پیاسے ہو، اس کی شان کیا ہے، میرے حب نسب کو یاد کرو۔ میں اس رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، اور میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی۔ میرا خاندان، خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے۔ آیتِ ظہیرہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ امام الانجیاءؑ کے دو شرپ سوار ہونے والا حسین ہوں۔ میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو اور میں خود نہیں آیا تمہارے بلاں پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں اور پھر آپ نے ایک ایک کاتام لے کر خاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کے لائچ میں آکر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و کرام پانے کے طبع میں عزت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو۔ میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔

ہاں تمہاری نظر میں اگر یہ اقصوٰر ہے تو وہ یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا تو سن لو، میں اپنا سب سچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر دوں گا، اکبر اور اصغر کو ہنس کے شار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ذر سے یزید کی بیعت کر لے گا۔

شعر و شاعری

حضرت امام حسینؑ نے شاعری کو فن کی حیثیت سے بھی اختیار نہیں فرمایا اور نہ کسی اپنے کلام کو جمع کرنے کا التزم کیا لیکن فطرت کی طرف سے طبع موزوں، عقل سلیم اور ذہن رسائے کر آئے تھے اور شذوذ احساس کی دولت سے مالا مال تھے اس لئے بسا اوقات

خادم کو آواز دی قبیر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، ہمارے اخراجات میں کچھ باتی رہ گیا ہے؟ قبیر نے جواب دیا، آپ نے دوسورہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لئے دیے تھے وہ ابھی تقسیم نہیں کئے گئے ہیں، فرمایا اس کو لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک اور مستحق آگیا ہے، چنانچہ اسی وقت دوسوکی تھیلی منجکا کر سائل کے حوالے کر دی اور مذکورت کی کہ اس وقت ہمارا ہاتھ خالی ہے اس لئے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔

(۳)..... سیدنا امام حسینؑ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے شاوت کی اس نے نفع پایا اور جس نے بجل کیا وہ ذیل ہوا، جس نے اپنے بھائی سے نیکی کرنے کی جلدی کی، وہ کل اپنے رب کے حضور پیش ہوتے وقت اس کو پالے گا۔

﴿قد روا لے جانتے ہیں قدر حسینؑ کی﴾

یہ بحث طویل ہے امام حسینؑ کی یہ قدر و منزلت کیا کم ہے کہ آپ امام الانبیاءؐ کے جگر گوش اور نواسہ بے مثال ہیں۔ اس نسبت کی قدر و منزلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے ہیں یا اولیائے کرام رحمہم اللہ یا پھر وہ عوام جو صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے نیازمند۔ فقیر چند نو نے سیدنا فاروق عظیمؑ کے حالات کے عرض کرتا ہے۔

امام حسینؑ اور فاروق عظیمؑ.....

تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ فاروق عظیمؑ نے اپنے دور خلافت میں آپ نے وہی روزینہ قبول کیا جو سیدنا صدیق اکبرؑ کا تھا، صحابہ کرام نے حالات کا اندازہ کر کے اسے بڑھانا چاہا تو خود عرض کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصة رضی اللہ عنہا (یعنی، آپ کی نھیں جگر) کو وسیلہ بنایا اور ان سے اپنا نام مجھی رکھنے کی درخواست کی، حضرت حفصة رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا۔ جس چیز پر حضور رسول خداؐ سن کر جلدی نماز ختم کی۔ باہر نکلے، سائل پر فقر و فاقہ کے آثار نظر آئے اسی وقت قبیر

حالات و افعال اور قدرتی مناظر سے متاثر ہو کر آپ پر شاعرانہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس حالت میں زبان پر بے سانتہ موزوں کلام جاری ہو جاتا ہے اور یہ کلام انہی کی پاکیزہ اور فصاحت و بلاغت کے اغفار سے بلند پایہ ہوتا تھا۔ بطور نمونہ یہاں صرف دو شعر نقل کئے جاتے ہیں۔

اذا ما عضک الدھر ه تمل الی خلق

ولا تسل سوا اللہ تعالیٰ قاسم الرزق

یعنی، دنیا کی طرف سے جب تمہیں تکلیف پہنچائی جائے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو روزی رسائی ہے اور کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کرو۔

فلو عشت و طوفت من الغرب الی الشرق

لما مارفت من يقدر وان يسعد او يشفى

یعنی، اگر تمہیں زندگی بھی مل جائے اور مشرق سے لے کر مغرب تک بھی ہو آؤ تو بھی تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو خوش بخت یا بد بخت بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔
سچی امام حسینؑ.....

(۱)..... حضرت امام حسینؑ نہایت سچی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے ایک ٹھیکینہ کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔

(۲)..... ابن عساکر لکھتے ہیں کہ سیدنا حسینؑ خدا کی راہ میں کثرت سے خیرات کرتے تھے کوئی سائل بھی آپ کے دروازہ سے ناکام نہ واپس لوٹا تھا۔ ایک دفعہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں پھرتا پھرا تا در دولت پر پہنچا اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ سائل کی صدائیں کر جلدی نماز ختم کی۔ باہر نکلے، سائل پر فقر و فاقہ کے آثار نظر آئے اسی وقت قبیر

نے قناعت فرمائی، میں اضافہ نہیں کر دوں گا، پھر ان سے پوچھا، حضور ﷺ کا بابس کیا تھا؟ کہا
دولباس تھے، انہیں وہ وفاد سے ملتے تھے اور جماد کے روز پہنچتے تھے۔ پھر سوال کیا، میرے آقا
ﷺ کا بہترین کھانا کیا تھا؟ جواب ملا، جو کی روئی تھوڑے سے کھی میں چور کر لیتے تھے، اسے
حضور بڑے شوق سے کھاتے تھے (ﷺ) پھر پوچھا، سرورِ عالم ﷺ کا بچھوٹا کیا تھا؟ بتایا ایک
عام سا کپڑا تھا۔ گرمیوں میں تہہ کر کے بچھا لیتے، سردیوں میں آدھا بچھا تے اور آدھا اوزد
لیتے تھے۔ ارشاد ہوا، حصہ امیر اروزینہ بڑھانے والوں کو بتا دو میں بھی حضور ﷺ کی پیر وی
کروں گا اور فالتو اشیاء سے پرہیز کروں گا۔ لیکن نسبت نبوی ﷺ پر آپ جیسا شاہ خرج
ڈھونڈے سے نہ ملے، یہاں صرف امام حسین ﷺ کا واقعہ حاضر ہے۔
نسبتِ مصطفیٰ ﷺ کا احترام

عشق کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ محظوظ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا بھی ادب
واحترام کیا جائے، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم ﷺ بھی اپنے محظوظ کریم ﷺ سے
نسبت رکھنے والی شخصیتوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ چنانچہ وظائف مقرر کرتے وقت
سب سے زیادہ وظیفہ (یہ بچوں ہزار درہم کے قریب) عم رسول مقبول ﷺ سیدنا حضرت عباس
رضی اللہ عنہ سے حضور سرورِ کوئین ﷺ کو سب سے زیادہ محبت تھی، لہذا ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کرنا
چاہا مگر حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حبیب کبریا ﷺ سب ازواج
مطہرات (رضی اللہ عنہن) میں مساوات رکھتے تھے۔ بدتری صحابہ رضی اللہ عنہم کے وظیفے کی مقدار
پانچ ہزار درہم تھی۔ حضرت اسامہ بن زید (جو حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے
صاحبزادے تھے) کا وظیفہ اپنے لخت جگہ حضرت عبد اللہ سے زیادہ مقرر کیا تو انہیں شکایت

ہوئی۔ فرمایا ہاں، مگر اس کا باپ رسول اللہ ﷺ کو تیرے باپ سے اور وہ خود تم سے زیادہ
عزیز تھا۔ (رضی اللہ عنہم)

حسین سے پیار

حضرت عمر بھی حضرت حسن و حسین (رضی اللہ عنہم اجمعین) سے بہت محبت کرتے تھے،
اور دونوں کو ہمیشہ اپنے لڑکوں سے مقدم رکھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں میں کچھ رقم
تقسیم کی اور اس میں سے دونوں بھائیوں کو دس دس ہزار روپے دیئے، یہ دیکھ کر حضرت عمر
ﷺ کے صاحبزادے عبد اللہ بن عمر ﷺ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پہلے اسلام
لایا اور بھرت کی۔ اس پر بھی، ان لڑکوں کو مجھ پر ترقیج دیتے ہیں۔ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا،
عبد اللہ مجھے تمہاری یہ بات سن کر بڑا رنج ہوا ہے تم بتاؤ کہ تمہارا نانا ان کے نانا کی مانند تھا؟
کیا تمہاری ماں ان کی مانند ہے، تمہاری نانی ان کی نانی کی مانند ہیں، کیا تمہارا ماموں
ان کے ماں کی مانند ہے، کیا تمہاری خالا میں ان کی خالا وہن کی مانند ہے۔ سنوان کے بابا
رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) ہیں ان کی نانی حضرت خدیجہ
الکبری (رضی اللہ عنہا) ہیں، ان کے ماں رسول خدا ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم
(ﷺ) ہیں۔ ان کی خالا میں رسول خدا ﷺ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور
حضرت اُم کلثوم (رضی اللہ عنہن) ہیں، ان کے بیچا جعفر بن ابی طالب (ؑ) ہیں۔

امام حسین نہ صرف جگر گوشہ بلکہ

صحابی رسول ﷺ بھی ہیں

ہم خوارج زمانہ پر ہیран ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے کمالات اور آپ کی اولاد کے
مناقب و کرامات سے تو ضد، لیکن آپ کے صحابہ کرام ﷺ کے نام پر قربان انہیں یقین ہو

الی ان توفی وہ عندر ارضِ ولکنہ کان صغیراً۔ اور مقصد یہ ہے کہ حسین معاصر رسول ہیں، جنہوں نے حضور کاظم ان پایا اور ان سے راضی تشریف لے گئے۔ فانہ من سادات المسلمين و علماء الصحابة و ابن بنت رسول اللہ ﷺ الی ہی

افضل نباتہ فقد کان عابداً و شجاعاً و سخیاً۔ (البدایہ صفحہ ۲۰۳)

یعنی، پیش کیے ہیں سادات مسلمین میں اور علماء صحابہ میں سے ہیں اور اللہ کے رسول کی سب سے افضل صاحبزادی کے بیٹے ہیں اور وہ عابد، بہادر اور سخی تھے۔

محدثین کی جماعت میں سے حافظ شمس الدین ذہبی نے جو محدث جلیل ہونے کے ساتھ ساتھ معلم و صوفی بھی ہیں اور ان جھرست مقدم ہیں، اپنی کتاب تحرید اسماء الصحابة میں حسین کریمین کو زمرہ صحابہ میں ذکر کیا ہے۔

مرتبہ صحابیت

سیدنا امام حسین ﷺ عالم، متقی، عابد و زاہد، تھی اور اعلیٰ درجے کے بہادر اور جان باز تھے۔ ان شرافتوں کے علاوہ آپ صحابی بھی ہیں جن کی شرافت اور عظمت قرآن حکیم اور حدیث شریف سے روز روشن کی طرح واضح ہے اس لئے سلف صالحین اور محققین میں صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والوں کو اچھی زگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ انہیں زنداق کہتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ انہیں بد گویوں کی جماعت میں شامل کرتے تھے کیونکہ ان کے قلوب رذائل نفس سے پاک ہو چکے تھے، قرآن کی آیات و یعلمهم الكتب والحكمة ویز کیہم۔ شاہد ہے کہ معلم کائنات ﷺ نے صحابہ کرام کی قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ان کا تذکرہ نفس فرمادیا تھا اس لئے مال و دولت کی محبت حکومت کے لائچے سے وہ بری تھے ان کی ولایت ان کے بعد ہونے والے اولیاء کرام سے بدرجہ ہا اعلیٰ اور بلند تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی

یا نہ۔ سیدنا امام حسین ﷺ اپنے برادر بکرم سیدنا امام حسن ﷺ کی طرح صحابی ہیں۔ امام بخاری تھے لفظ اور مستند امام نے بخاری جلد اول باب اصحاب النبی ﷺ میں صحابی کی تعریف میں لکھا۔

من صحب النبی ﷺ اور اہ من المؤمنین فهو صحابی۔

یعنی، حسین نے نبی ﷺ کی صحبت پالی یا آپ کو بحالت ایمان دیکھ لیا۔ وہ صحابی ہے۔

فائدة:..... اس قاعدہ پر حسین کریمین ﷺ کی قسمت کی رفتہ کا کیا کہنا کہ آنکھیں کھولیں تو رخ مصطفیٰ پر نگاہ پڑی اور بار بار پڑی نکلکی لگا کر چہرہ نبی کو دیکھا اور سیر ہو کر دیکھا۔ جب کہ دوسرے بڑے اکابر صحابہ نے ہبہت نبوی سے چہرہ مبارک کو دیکھا تو سہی لیکن جی بھر کرنہ دیکھ سکے۔

از الودّام
بعض ناعاقت اندیش چند عبارات سے غلطی کا شکار ہوئے کہ نابالغ بچہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس غلط نظریے کا رذ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ومنهم من اشرط فی ذالک ان یکون حین اجماعه بالغاً وهو مردود۔
یعنی، ان میں سے بعض نے شرط لکھا ہے کہ آدمی حضور ﷺ کی صحبت اور زیارت کے وقت بالغ ہوتے صحابی ہوتا ہے، یہ قول مردود ہے۔

یہ عقیدہ امام بخاری، امام احمد، جمہور محدثین کا ہے، یعنی صحابی ہونے کے لئے حضور ﷺ کی صحبت شرط ہے بلوغت شرط نہیں ہے جو بھی ایمان کے ساتھ حضور ﷺ کی صحبت و بقا کا شرف حاصل کرے خواہ قبل البلوغ یا بعد البلوغ وہ صحابی ہے، چنانچہ مخالفین کے مدوح حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ، والمقصود ان الحسین عاصر رسول اللہ ﷺ و صحبه

صحابت کے رتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت نے عقائد و مسائل اور احکام میں صحابہ کو غیر وہ پر ترجیح دی۔ اسی کلیہ کو سامنے رکھ کر امام حسین رض اور یزید خبیث کی حیثیت کا موازنہ خود بخود کیجئے۔

بیعت یزید رض

منافقین سیدنا امام حسین رض پر صرف اسی لئے ناراض ہیں کہ آپ نے یزید کی بیعت کیوں قبول نہ کی جب کہ اس کی خلافت پر اجماع ہو گیا۔ ان بھلے مانسوں کو کون سمجھائے کہ یزید کی بیعت اجتماعی کہا تھی وہ تو زبردستی سے تخت نشین بن بیٹھا اور تھا بھی خونخوار، ظالم اور پر لے درجے کا فاسق و فاجر بلکہ یزید کے دور منہوس کا تقاضا بھی تھا کہ اسے لمحہ بھر بھی مسلمانوں پر مسلط نہ ہونے دیا جائے تھے امام حسین رض نے بے سرو سامانی کے باوجود وہ کردکھایا۔ چنانچہ تاریخ کے اور اق شاہد ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رض کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا اور اپنے عمال (گورز) کے ذریعے بیعت کی تجدید کرائی۔

سیدنا حضرت حسین پاک رض اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رض نے اور ان کے ہم خیال بہت سے لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ سیدنا معاویہ رض کے زمانہ میں بھی ان لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور شای لوگ ان کے قتل کرنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن امیر معاویہ رض نے شامیوں کو روکا اور کہا کہ کوئی شخص قریش کو ریزی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔

ان حضرات کے انکار سے یزید کی بیعت اجتماعی نہ رہی۔ جن صحابے نے بیعت کر لی تھی وہ ان کے اپنے احتجاد کے مطابق کی تھی۔ جو شخص جرود تشدید سے حکمران بن بیٹھے شریعت میں اس کو امیر المؤمنین کہنا جائز نہیں۔ اسی لئے سیدنا عمر بن عبد العزیز رض یزید کو امیر المؤمنین کہنے پر کوزے مارتے تھے۔

غیر شرعی خلیفہ رض

جب یزید کی امارت غیر شرعی تھبھری تو یزید شرعاً واجب الاطاعت نہ ہوا۔ کربلا اور حادثہ کے واقعات سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ اگر اس کی بیعت غیر شرعی نہ ہوتی تو حادثہ و کربلا میں صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم احمد بن حیان اپنی جانوں کا نذر انہیں نہ کرتے، کربلا کے واقعات تو مشہور ہیں۔ ۷۰ھ (مدینہ منورہ) میں یزیدیوں کی طرف سے صحابہ و تابعین پر کیا گزری۔ اس کی تفصیل کے لئے فتنی کی کتاب ”محبوب مدینہ“ کا مطالعہ کیجئے۔

ظالم و جابر کا مقابلہ رض

شہداء کربلا اور شہداء مدینہ پر میرے ماں باپ قربان ہوں کہ انہوں نے ظالم بادشاہ کو کلم حق علی رؤس الاشہاد کہہ دیا کہ یزید فاسق مجاہر ہے از روئے شریعت امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان جابر.

یعنی، ظالم بادشاہ کو حق بات کہہ دینا سب جہادوں سے افضل جہاد ہے۔

یزید کا فسق رض

یزید کا فسق متعدد تھا جس سے نظام شرعی محل ہو گیا تھا۔ اس نے اکابر صحابہ کو کلیدی عہدوں سے معزول کیا اور اپنے نوجوان رشتہ داروں کو وہ مناصب عطا کئے۔ اکابر میں بہت کم لوگ کلیدی عہدوں پر باتی رہ گئے تھے اسی لئے امام حسین رض اس کے مقابلے کے لئے اترے اور ان کا حق تھا اور سالوں پہلے اس کی خبر نبی پاک رض نے دے دی تھی۔

علم غیب نبوی صلی اللہ علیہ وسالم کی جھلک

رسول اکرم ﷺ نے یزید کی مغلبلانہ امارت سے اپنے صحابہ کرام کو آگاہ فرمادیا تھا اور اس کے ظلم و ستم سے ان کو ذرا یا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھوں پر میری امت کی

بربادی ہوگی۔ احادیث ملاحظہ ہوں۔

۱) قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدق ﷺ هلکة اُمّتی علی ایڈی اغیلمة مِنْ قَرِیشٍ۔ (بخاری کتاب المعن، صفحہ ۱۰۲۶)

یعنی، ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امارت صیبان (لڑکوں کی حکومت) سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا لڑکوں کی حکومت کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ (یعنی، دین کے اعتبار سے) اور ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ (یعنی، تمہاری دنیا کے اعتبار سے جان لے کر یا مال چھین کر یادوں لے کر۔)

فائده: اگر تم امارت صیبان کی اطاعت کرو گے تو تمہارا دین بر باد ہو جائے گا اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہاری دنیا بر باد ہو جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی آئندہ روایت میں امارت صیبان کے زمانہ کی تعریف فرمادی گئی۔

۳) وفي رواية ابن ابی شیبہ ان ابا هریرة كان يمشي فی الاسواق ويقول اللهم لا تذر کنی سنة ستين ولا اماراة الصبيان۔ (فتح الباری صفحہ ۱۲)

یعنی، اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے پھرتے کہتے تھے، اے اللہ ۲۰ کا زمانہ مجھ پر نہ گزرے اور امارۃ الصیبان مجھ نہ پائے۔

فائده: ۲۰ میں امارۃ الصیبان ہونا حدیث مذکور میں ابو ہریرہ ﷺ کا قول ہے جو حکماً مرفوع ہے اور آئندہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا قول ہے۔

انہ سمع ابا سعید الخدیری يقول سمعت رسول اللہ ﷺ يقول یکون خلف من بعد ستین سنة اضاعوا الصلوة وابتغوا الشهوات فسوف يلقون غيابا۔ (البلیة والنهایہ، صفحہ ۸۱/۲۳۰)

یعنی، ابو سعید خدیری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے نہ ہے کہ

اس حدیث میں لفظ صحیح بالتصحیر آیا ہے اور آئندہ احادیث میں صیبان (جس میں) آیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ یزید اور اس کے اعوان کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں حالانکہ یہ الفاظ غیر بالغوں پر بولے جاتے ہیں کیا یزید اور اس کے عمل غیر بالغ بچے تھے۔

جواب: اس کا جواب علیٰ ماذن جبر رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

قلت وقد يطلق الصبی والغلیم بالتصحیر على ضعیف العقل والتدبیر والذین ولو كان محتملاً فهو المراد هنا.

یعنی، میں کہتا ہوں صبی اور غلیم (چھوٹا لڑکا) کا لفظ تصحیر کے ساتھ کبھی ضعیف اعقل اور ضعیف الدبیر اور ضعیف الدین کے لئے بولا جاتا ہے، گونو جوان ہو اور بہاں پر بھی معنی مراد ہے۔

۲) حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی تخریج میں دوسری روایت تحریر کی ہے جس سے اُمت کی بر بادی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

قال ابن بطال المراد بالهلاک مبیناً فی حدیث آخر لابی هریرة اخر جه علی بن معبدو ابن ابی شیبہ من وجه آخر عن ابی هریرة دفعہ، اعوذ بالله من امارۃ الصیبان قالوا و ما امارۃ الصیبان قال ان اطعتمو هم هلکتم ای فی دینکم و ان عصیتمو هم اهلکو کم ای فی دنیا کم باذہاق النفس او باذہاب المال او لہما۔ (فتح الباری صفحہ ۱۲)

فائده: با تفاق محدثین ان احادیث کا مصدقہ یزید بن معاویہ ہے ان احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ۲۰ھ کی حکومت ان ضعیف الدین لوگوں کی ہوگی جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات لفسانیہ کے پیروں ہوں گے اور انجام کارچشم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ توضیح بھی فرمائی کہ اس حکومت کی فرمانبرداری دین کی بر بادی ہوگی اور اس کی تا فرمائی سے دنیا کی بر بادی ہوگی۔

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آسمان دزمیں تبدل سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم ﷺ کے منه مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہ ہوگی۔ اسی نے لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دور یزیدی دین کی تباہی کا دور تھا جسے چایا تو امام حسین ﷺ نے۔ اسی نے ہم اہلسنت بجا کہتے ہیں۔ سردادندادوست درست یزید ☆☆ حاکم بنائے لا الہ است حسین ۔ یعنی، سردے دیا لیکن یزید کی بیعت نہ کی، بخدا کہ حق کی بناء امام حسین ہیں۔

غلط پرو گلنڈہ ۔

مخالفین بڑے شور مچاتے اور زور لگاتے ہیں کہ (معاذ اللہ) حضرت امام حسین ﷺ باغی تھے، اس غلط پرو گلنڈہ کا صدیوں پہلے امام مالکی قاری رحمۃ اللہ الباری نے قلع قع فرمایا۔ آپ شرح فقة اکبر صفحہ ۲۷ میں لکھتے ہیں کہ:

واما ما تفوہ بعض الجھلة من ان الحسين كان باغيا فباطل عند اهل السنة والجماعۃ ولعل هذا من هذينات الخوارج عن الجارة.

یعنی، کہ یہ جو بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ امام حسین ﷺ باغی تھے، اہلسنت و جماعت کے نزدیک غلط ہے اور شاید یہ را حق سے بہکے ہوئے (خارجوں) کی بڑ ہے۔

فائده: حضرت مالکی قاری رحمۃ اللہ الباری مسلم محمد دہیں۔ بالخصوص مخالفین کو ان کی تحقیق پر بہت زیادہ اعتماد ہے، آپ نے انہیں اس مسئلہ میں جاہل قرار دیا ہے، اسی نے ہم

۶۰ ہو کے بعد ایسے خلف ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیروی کریں گے تو وہ عنقریب غی (ادی ہجت) میں ڈال دیئے جائیں گے۔

شارحین نے فرمایا ۔

بخاری شریف کی دو شرحیں (مینی، فتح الباری) کی تحقیق سے بڑھ کر اور کوئی تحقیق نہیں بالخصوص جس مضمون میں دونوں متفق ہو جائیں تو وہ مضمون ایسے مضبوط ہو جاتا ہے جیسے بخاری و مسلم کی روایت متفق علیہ ہو جاتی ہے۔

۱) حافظ ابن حجر کی عبارت پڑھتے ہیں جس میں وہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری (رض) کی حدیثوں کا مصدقہ معین کر رہے ہیں۔

وفی هذا اشارة الى ان اول الاغیلمة كان في سنة ستين يزيد وهو كذلك
فإن يزيد بن معاویه استخلف فيها وبقى الى سنة اربع وستين فمات .

(فتح الباری، صفحہ ۱۲)

یعنی، اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان نو خیڑکوں میں پہلا نو خیڑک کا ۲۰ھ میں یزید تھا اور وہ ۲۳ھ تک باقی رہا پھر فوت ہو گیا۔

۲) علامہ بدر الدین مینی بھی اس امارۃ الصیان والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
وأَوْلَهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُ وَكَانَ عَالَيْهِ يَنْزَعُ الشَّيْوُخَ مِنْ اِمَارَةِ الْبَلْدَانِ
الْكَبَارِ وَيُوْلَيْهَا الْاِصْغَارُ مِنْ اِقَارِبِهِ . (عدمۃ القاری، صفحہ ۳۲۳، جلد ۱)

یعنی، ان صیان میں پہلا یزید ہے اس پر وہی ہو جس کا وہ مستحق ہے اور اکثر وہ شیوخ اکابر کو بڑے شہروں کے ذمہ دار نہ عبدوں سے برطرف کر کے اپنے عزیز واقارب نوجوانوں کو کلیدی عہدے پر درکرتا جاتا تھا۔

حضرت حسینؑ کو گود میں لے بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فرمایا جراائل (ؑ) نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ (ؑ) کے بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ مجھے اس جگہ کی سرخ رنگ کی مٹی بھی دکھائی۔

(۵)..... حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور جسم ﷺ آرام فرمائے تھے جب بیدار ہوئے تو آپ غلگین تھے اور آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی۔ اس کو الٹے پلتے تھے، میں نے پوچھا یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا مجھے جبراائل (ؑ) نے خبر دی ہے۔ ان هدا یعنی الحسین یقتل بارض العراق و هذه ترابتها۔ کہ حسین شہید ہو گا عراق کی زمین پر اور یہ مٹی وہیں کی ہے۔

(۶)..... حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین (ؑ) میرے گھر میں کھیل رہے تھے، حضرت جبراائل (ؑ) بارگاونبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد آپ کی امت شہید کرے گی اوحی الی الحسین، اشارہ کیا حسین کی طرف اور آپ کو تھوڑی سی مٹی بھی دی۔ آپ نے اس کو سونگھا اور فرمایا۔ قال ریح کرب و بلاء، اس رفع سے مصیبت اور بلا کی نوآتی ہے۔ پھر فرمایا، اے ام سلمہ جب یہی خون ہو گی تو سمجھ لینا کہ ان ابنی قد قتل، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔

(۷)..... حضرت محمد بن عمر بن حسنؑ فرماتے ہیں کہ ہم حسینؑ کے ساتھ کر بلا کی دونہوں پر تھے، حضرت حسینؑ نے شرذی الجوش کی طرف دیکھا اور فرمایا، صدق اللہ ورسولہ قال رسول اللہ ﷺ کانی انظر الی کلب اباقع يلغ فی اهل بیتی و کان شمرابرص۔

اللہ اور اس کا رسول ﷺ پچاہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے گویا میں دیکھتا ہوں ایک اپنے کتے کو جو منہ ذاتا ہے میرے اہل بیت کے خون میں اور وہ شرذی الجوش کو رہی تھا۔

کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کو با غنی اور زیاد کو امام برحق کہنے والے جہالت سے کہر رہے ہیں ورنہ اہل علم کا یہ شیوه نہیں جوانہوں نے کردار ادا کیا ہے۔

﴿ حق حسین برحق حسین ﴾

رسول خدا ﷺ نے سالوں پہلے فرمادیا تھا:

(۱)..... ابن سعد و طبرانی میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا مجھے جبراائل (ؑ) نے خبر دی، ان اینی الحسین یقتل بعدي بارض الطف وجاء نی بهزه التوبة فاخبرنی انها مضجعة۔

(۲)..... امام احمد بن حنبلؓ، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے، پیش کیا گئے گھر آیا ایک فرشتہ جو پہلے بھی نہیں آیا تھا اس نے مجھ سے کہا آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گا، اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھادوں پھر وہ سرخ رنگ کی مٹی دکھائی۔

(۳)..... حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے حضور نبی کریمؐ کی زیارت کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی۔ اس وقت نبی کریمؐ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، خبردار کوئی اندر داخل نہ ہو، اس وقت حضرت حسینؑ حضرت ام سلمہ سے زبردستی اندر داخل ہوئے اور فوٹب علی رسول اللہ ﷺ فجعل رسول اللہ ﷺ یلمثہ و یقبلہ۔ نبی کریمؐ کی گود اور کندھوں پر کوئی نہ لگا اور آپ ان کو جو منے لگے۔ اس فرشتے نے عرض کیا، باقی اس سے اوپر جو لکھا گیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔

(۴)..... حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریمؐ کے پاس گئی تو آپ

(۸) حضرت انس بن حارثؓ فرماتے ہیں میں نے نبی کریمؐ سے سنا۔

ان اپنی ہدایت بارضِ یقال لها کربلاء فمن يشهد ذالک منكم
فلینصره۔ کمیر ایڈیشن میں شہید ہوگا جس کا نام کربلا ہے پھر جو شخص تم لوگوں میں
سے وہاں موجود ہواں کی مدد کرے۔ سو گئے انس بن حارثؓ کربلا کو اور شہید ہوئے امام
حسینؑ کے ساتھ۔

(۹) حضرت یحییٰ الحضری فرماتے ہیں کہ حسین میں حضرت علیؑ کے ساتھ جب ہم نبیوی
کے برابر پہنچ تو حضرت علیؑ نے پکار کر کہا، صبراً یا عبد اللہ بشط الفرات۔ میں نے
عرض کیا امیر المؤمنینؑ یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریمؑ نے کہ مجھے جراحتی نے خبر دی ہے
کہ حسین شہید ہو گفرات کے کنارے پر اور دکھائی مجھ کو وہاں کی مٹی۔

(۱۰) حضرت انس بن نبیانہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت علیؑ کے ساتھ حسین کی قبرگاہ
پر پہنچ، فرمایا، امیر المؤمنین علیؑ نے،

ههنا مناخ رکابهم وموضع رجالهم ومهاراق دماء لهم فلة من آل
محمدؑ يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والارض۔

کہ شہدا کے اونٹ باندھنے کی جگہ ہے اور یہ کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے
خون بہنے کا مقام ہے۔ کتنے جوان آل محمدؑ کے اس میدان میں شہید ہوں گے جن پر
زمیں و آسمان روکیں گے۔

(۱۱) حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کی طرف
و ہمیجی کہ میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا (الظفیر) کے بد لے ستر ہزار آدمی مارے۔ اسی
قاتل ابن ابیک سبعین الفاو سبعین الفا، اور مارنے تیرے نواسے کے عوض ستر
ہزار اور ستر ہزار۔

فائدة یہ روایات بتاتی ہیں کہ حق پر ہیں امام حسینؑ اور یزید کو برحق مانتا خدا اور
رسولؐ کے حکم کے خلاف ہے۔

از الله وهم ﴿.....﴾

ان میں بعض روایات کی سن ضعیف ہیں لیکن محدثین کا قاعده نہ بھولئے کہ سندات
مختلف بطرق مختلف احادیث صحاح کے حسن الغیرہ ہو جاتی ہیں۔

یزید فیل و خوار اور بد کردار ﴿.....﴾

قاعده مذکورہ کے مطابق حضور نبی پاک شہزادہ اولادؑ نے سالوں پہلے ایک فیصلہ
امت کو سنایا۔ امت کی بدقسمتی قوم نے انکار کر دیا، لیکن احمد رحمہم خوش قسمت الہست کو
تمکمل یقین ہے۔

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور پر نورؓ نے فرمایا:

لایزال امر هذه الامة قائمًا بالقسط حتى يكون اول من يعلمه رجل من امية
يقال له يزيد۔ (البدایہ و النھایہ صفحہ ۲۳۳، جلد ۸۔ وصواعق محرقة صفحہ ۲۲۱۔ تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۶۰)

(۲) عن ابی الدرداء قال سمعت النبيؐ يقول اول من يدل سنتی رجل
من بنی امية یقال له یزید۔ (ایضاً)

ترجمہ: حدیث اول:- میری امت کا امر و حکم عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا
وہ شخص جو اسے تباہ کرے گا بنی امیہ سے ہو گا جسے یزید کہا جائے گا۔

ترجمہ، دوسری حدیث:- حضرت ابی درداءؓ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریمؐ سے سنا
آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو بد لے گا وہ بنی امیہ سے ہو گا، جسے یزید
کہا جائے گا۔

حسین ویزید

اخراج الواقدى من طرق ان عبده الله بن حنظلة ابن الفسیل قال والله ما خرج
جناعلى یزید حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء انه رجل ينكح
امهات اولاد البنات والاخوان وتشرب الخمر ويدع الصلوة .

(ما ثبت بالنية صفحہ ۲۷۷، تاریخ اخلاقنا صفحہ ۱۶۰، صواعق عمرۃ صفحہ ۲۲۳)

یعنی، خدا کی قسم ہم نے یزید پر خروج نہیں کیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی
بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر بر سائے جائیں۔ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے
ماں اور بیٹوں اور بہنوں کے نکاح کا رواج دیا۔ یہ شراب پیتا تھا اور نماز کا تارک تھا۔
۳) علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

وقال الذهبی وكما فعل یزید باهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر ایمانه
المنكرات اشد عليه الناس وخرج عليه الناس وخرج عليه غير واحد ولم
يبارك الله في عمره . (صواعق عمرۃ)

یعنی، کہ یزید نے باشندگان مدینہ منورہ کے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ
شراب خوار اور ممنوعہ اعمال کا مرتب تھا اسی سبب سے لوگ اس سے ناراض ہوئے اور اس پر
سب نے متفقہ طور پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یزید کو غارت یعنی بتاہ کر دیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ کے کوڑے).....

کاش آج کوئی عمر بن عبد العزیز ﷺ جیسا منصف مرا ج پیدا ہوتا کہ یزید پر ستون کو
کوڑے مارے تاکہ روزانہ کی جنگ ختم ہو۔

نوفل بن قرات کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا
انتہے میں کسی نے یزید بن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

مذکورہ احادیث اور کتب تاریخ سے حقیقت واضح ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رض
نے ۱۰ھ سے پناہ مانگی، آپ کی وفات ۵۹ھ میں ہوئی۔ جن کے بارے میں حضرت
ابو ہریرہ رض نے مردان سے فرمایا تھا کہ مجھے ان صیبان کے نام اور قبیلہ تک معلوم ہیں اگر
میں چاہوں تو بتلا سکتا ہوں اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام اور حضرت امام عالی مقام امام حسین
رض نے یزیدی حکومت کا شروع ہی سے انکار کر دیا تھا اور جواب ہی خاموش تھے انہوں نے بھی
یزید کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یزید کی مخالفت کی۔ یہاں تک کہ کارزار کر بلہ اور واقعہ حربہ
(مدینہ) اور حملہ کعبہ رونما ہوئے۔

﴿ربانی علمائے امت کا فیصلہ﴾

اسی لئے یزید کے فتوائے کفر تک نوبت پہنچی۔

۱) چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو نویں صدی (متوفی ۸۹۹ھ) کے بہت بڑے محدث
ہوئے۔ اپنی تصنیف صواعق عمرۃ صفحہ ۲۲۰ پر ارشاد فرماتے ہیں:

اعلم ان اہل السنۃ اختلفوا فی تکفیر یزید بن معاویہ فقالت طائفۃ انه کافر
يقول ابن الجوزی وغيرہ المشہور . (الخ)

یعنی، کہ اہلسنت کا اس میں اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ کافر ہے ان کی
دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین رض کا سرد مشق میں اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ خوشی سے شعر
پڑھتا تھا اور سر مبارک کو چھڑی سے ٹھوکنے لگا تھا۔ وقالت طائفۃ ليس بکافر اور ایک
جماعت کہتی ہے کہ وہ کافر نہیں۔ بہر حال یہ امت کا اختلافی مسئلہ ہے اور جمہور اہلسنت
اور ائمہ کرام کا اسی پر اتفاق ہے کہ وہ فاسق و فاجر اور شریب تھا۔

۲) اسی کتاب کے صفحہ ۲۲۱ پر ہے:

قال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ فقال تقول امیر المؤمنین فامر به
فضرب عشرين سوطاً. (صواب عن عمر زاده صفحہ ۲۲۱)

امیر المؤمنین یزید بن معاویہ نے یہ کہا، اس پر خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رض
نے کہا۔ شخص تو نے یزید کو امیر المؤمنین کہا یہ تیرا جرم ہے، پھر اس شخص کو بیس کوڑے
گلوائے۔

آخری فیصلہ

جن صاحبان کو یزید کے کفر کے موجبات قطعی طور پر میر آئے۔ انہوں نے یزید کے
متعلق حقیقی فیصلہ فرمایا جیسے حضرت امام علامہ سعد الدین تقیازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
واستیشارہ بذلک واحادۃ اہل بیت انی اتفقوا علی جو اذال لعن علی من
قتلہ او امرہ او اجازہ و رضی بہ والحق ان رضا یزید القتل الحسین۔

یعنی، سیدنا امام حسین رض کے قاتل اور قتل کا حکم دینے والے اور قتل کو جائز سمجھنے والے
اور آپ کے قتل پر راضی ہونے والے پر لعنت کرنے میں سب کااتفاق ہے۔

اور یہ صحیح بات ہے کہ یزید سیدنا امام حسین رض کے قتل پر خوش منانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھرانے کی توہین کرنے پر راضی تھا۔ (شرح عقائد امام نبوی)

سوال: یزید پلید تو تھا ہی تو پھر اسے امیر معاویہ رض نے اپنا جانشین کیوں بنایا؟

جواب: اس کا تفصیلی جواب فقیر کے رسالہ "الراہیہ فی الناہیہ عن ذم معاویہ" میں ہے۔

اجمالی جواب نبرا: یہ ہے کہ چونکہ امیر معاویہ رض نے اپنے زمانہ میں اس سے
کوئی نازیبا حرکت نہ دیکھی تھی بلکہ بعض حضرات سے اس کی تعریفیں اور فضیلتیں سُنی تھیں اس
لئے اسے اپنا جانشین بنایا اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی:

اللَّهُمَّ إِنْ كَثُرَتْ مَهْدَتْ لِيْزِيدَ لِمَا رَأَيْتَ مِنْ فَضْلِهِ قَبْلَهُ مَا مَلَتْ وَاعْنَهُ وَانْ
كَثُرَتْ أَنْمَاءِ حَمْلَنِي حُبُّ الْوَالِدِبُولَدَهُ وَانْهُ لِيْسَ لِمَا صَنَعْتَ بِهِ أَهْلًا فَاقْبَضْهُ
قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ . (تاریخ الطائفہ صفحہ ۱۵۸)

یعنی، یا اللہ اگر میں نے یزید کو اس کی فضیلت و اہلیت دیکھ کر اپنا جانشین بنایا ہے تو اسے
میری توقع پر پورا اتنا را اور اس کی مدفرما اور اگر میں نے محض شفقت پر دری کہ ایک باپ کو
اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے اسے اپنا جانشین بنایا اور وہ نااہل ہے تو اسے عنان حکمرانی
سنچانے سے پہلے ہی ہلاک کر دے۔

جواب نمبر ۲: سیدنا امیر معاویہ رض نے دور کی زنا کت کو بھی سامنے رکھا کہ اس وقت بنو
آمیہ تمام معاملات سلطنت پر قابض تھے اگر آپ یزید کے لئے ایسا اقدام نہ فرماتے تو خانہ
جنگی شروع ہو جاتی جسے ان کے بعد روکنا ناممکن ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسن رض
نے اسی زنا کت کے پیش نظر خلافت سے خود بخوبی سبکدوش ہو کر امیر معاویہ رض کے ہاتھ پر
بیعت کر لی۔

جواب نمبر ۳: اولاً دو کو جانشین بنانا کفر نہیں۔ یہی کام تو پہلے سیدنا علی الرضا رض نے کیا
کہ اپنا جانشین امام حسن رض کو مقرر فرمایا تو جیسے امام حسن رض کی لیاقت کے پیش نظر حضرت
علی رض نے انہیں اپنا جانشین بنایا ایسے ہی امیر معاویہ رض نے کیا جیسے کہ اجمالی جواب نمبر
میں اگزارا۔

﴿فہرست یزید کے گندے کرتوت کی﴾

یزید کے خلاف جو امام حسین رض نے علم جہاد بلند کیا۔ اس کا موجب یزید کے گندے کرتوت
تھے، چنانچہ مخالفین کے مددوچ حافظ ابن کثیر یزید کے اخلاق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اہل مدینہ پر ظلم و تم

اہل مدینہ کی خوزیری کے لئے جو یزید نے فوج بھیجی تھی اس پر حافظ ابن کثیر اپنی رائے یوں ظاہر فرماتے ہیں:

وقد اخطأ یزید خطأ فاحش فی قولہ لمسلم بن عقبة ان هبیح المدینة ثلاثة ایام وهذا خطأ كبير فاحش مع ما أضنم الى ذلك من قتل خلق من الصحابة وابنائهم وقد تقدم انه قتل الحسين واصحابة على يد عبید الله بن زياد وقد وقع في هذه الشلاتة ایام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية مالا يحدو لا يوصف مملا يعلمہ الا اللہ وقد ادار دبار مسلم بن عقبة توطید سلطانہ وملکہ ودؤام ایامہ من غیر منازع ، فعاقبہ اللہ بنقیض قصده وحال بینہ وبین ما یشتھیه فقصمه اللہ قاصم الجبارۃ واحذہ اخذ عزیز مقدر ، وكذلك اخذ ریک اذا اخذ القری وھی ظالمة ان اخذہ الیم شدید .
(البداية والهایة صفحہ ۲۲۲، جلد ۸)

یعنی، یزید نے بے ہودہ غلطی کی کہاں نے مسلم بن عقبہ سے کہا کہ وہ تین دن مدینہ کی بے حرمتی کرے۔ یہ بات کہنا بہت بے ہودہ غلطی ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی مل گئی کہ صحابہ اور صحابہزادوں سے بڑی مغلوق قتل ہوئی اور اس بات کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو عبید اللہ بن زياد کے ہاتھوں قتل کرایا۔ مدینہ بنویہ میں ان تین دنوں میں ایسے مفاسد عظیمہ واقع ہوئے جن کی کوئی حد نہیں اور زبان ان کو بیان کر سکتی ہے جس کی شاعت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ مسلم بن عقبہ کے بھیجنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ میری سلطنت اور بادشاہی ایسی مضبوط ہو کہ بغیر کسی مخالفت کرنے والے کے ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادہ کے برکس اسے سزا دی اور اس کے

وقد کان یزید فیه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأی فی الملک وکان زاجمال حسن المعاشرة وکان فیه ايضاً اقبال علی الشهوات وترك بعض الصلوات فی بعض الاوقات واما تھا فی غالب الاوقات . (البداية والهایة صفحہ ۲۳۰، جلد ۸)

ترجمہ: یزید میں اچھے خصال تھے یعنی کرم اور فصاحت اور شاعری اور بہادری اور بادشاہی میں اچھی رائے اور خوبصورت و خوش اخلاق تھا اور یہ بھی تھا کہ شہروں کی طرف اس کی توجہ تھی اور بعض اوقات بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور اکثر اوقات میں نمازیں وقت گزار کر پڑھتا۔
تبصرہ اویسی غفرلہ

حافظ ابن کثیر نے اس کے اچھے خصال بتائے جو دراصل وہ بھی نہ رے اخلاق تھے مثلاً جب اس کا ثبوت شہوت پرست ہوتا ثابت ہو گیا تو اس میں شرمنگاہ کی تاجز خواہش دونوں آجائی ہیں۔ اس کا زانی ہوتا بھی آگیا اور شرابی ہوتا بھی۔ اور نمازوں کا ترک کرنا بھی، ایسے بدرویہ شخص کے کوئی اچھے خصال ہوتے ہیں تو وہ بھی درحقیقت اچھے نہیں ہوتے۔ فقط اس کے پرستاروں کی نگاہ میں اچھے ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے دور میں خوارج و نواصب یزید کو آسمان سے اوپر چڑھا رہے ہیں۔ مثلاً کرم اس میں موجود تھا لیکن یہ بدرویہ شخص فقط بد چلن لوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم محمود نہیں بلکہ مذموم ہے اور اس کے پرستار اس کے عمل تبدیل کو کرم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی فصاحت اور شاعری کو دیکھنے کے اس کی یہ صفتیں عورتوں کی مدح و شناور شراب نوشی کے ذوق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کا اختیار اور ابرار کو قتل کرنا اس کے دوستوں کی نگاہ میں شجاعت اور بہادری ہے، ایسے کرم فصاحت شاعری اور بہادری پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں ہوں۔

اور اس کی خواہش کے درمیان حاصل ہو گیا۔ زبرستوں کو نکل کر کرنے والے اللہ ﷺ نے اسے نکل کر کر دیا اور اس کو غالباً نہ اور قادر نہ شان سے پکڑا۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ شہروں کے ظالم باشندوں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ سخت اور دردناک ہے۔

﴿ درس عبرت یزید پرستوں کے لئے ﴾

حافظ ابن کثیر نے پُر زور الفاظ میں یزید کا تارک الصلوٰۃ، شہوت پرست، ظالم سفاک ہوتا ہیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یزید کے اس بے انہذا ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیا۔ وہ ظالموں سے دائمًا ایسا کرتا ہے۔

فائدہ : مخالفین کے لئے حافظ ابن کثیر مورخ جلیل ہونے کے علاوہ محدث کبیر بھی ہیں اس لئے وہ یہاں چند احادیث صحیحہ بھی لکھ رہے ہیں تاکہ یزید کی خباثت اور اس کے ظلم و استبداد اور فتن و فنور پر مہربنت ہو۔

اہل مدینہ کے گتارخ کی سزا ﴿

۱) فی روایة لمسلم من طريق ابی عبد الله القراط عن سعد وابی هریرة ان رسول الله ﷺ قال من اراد اهل المدينة بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء۔ (البداية والنهاية، جلد ۸، صفحہ ۲۲۳)

یعنی، سعد اور ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص مدینہ والوں کے حق میں بُرا رادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پکھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔

۲) عن السائب بن خلدادن رسول الله ﷺ قال من اخاف اهل المدينة ظلماً اخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله عندي يوم

القيامة صرفاً ولا عدلاً۔ رواه امام احمد۔ (البداية والنهاية، جلد ۸، صفحہ ۲۲۳)

یعنی، سائب بن خلاد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کی بنا پر اہل مدینہ کو ڈرata ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نہ نوافل قبول فرمائے گا اور نہ فرانفس۔

ازالہ وہم ﴿

جن لوگوں نے یزید کو صالح اور جواد کہا ہے وہ لوگ یزید کے اپنے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض اکابر کے سامنے یزید صالح اور نمازی بن جاتا تھا، یہ اس کی چالا کی تھی تاکہ یہ بڑے لوگ اس کی اچھائی کا پرچار کریں تاکہ اس کی کرسی مضبوط ہو۔ جیسے ہمارے دور میں بعض سیاسی لیڈروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کرسی کی خاطر کیسے کیسے پاپڑ بیٹتے اور خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔

گھر کا بھیدی ﴿

عربی مثل مشہور ہے کہ ”صاحب البيت ادری بما فيه“ ”گھر والوں کو گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے۔ یزید کا حال جتنا اس کا بیٹا جانتا ہے صد یوں بعد کسی کو کیا خبر کہ یزید کے بیٹے کو مخالفین بھی نیک اور متقدی مانتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید اپنے صالح بیٹے کو ولی عہد بنا کر مرا۔ وہ بیچارہ مسلسل بیمار ہا اور اسی بیماری سے ہی وفات پائی۔ وہ باہر نکل کر لوگوں کے پاس نہیں آیا اور نہ ان کو نماز پڑھائی اور نہ امور خلافت میں دخل دیا اس کی خلافت کی مدت چالیس یوم تھی۔ بعض نے کہا وہ ماہ اور بعض نے کہا ہے تین ماہ۔ اس نے اکیس برس کی عمر میں وفات پائی اور بعض نے کہا میں سال کی عمر میں۔ اس کی نیکی کاری کی

ایک واضح دلیل یہ ہے کہ وہ آغاز خلافت میں مجبور پر چڑھا اور کہا کہ یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی ایک ری ہے میرا باب خلیفہ بن گیا وہ نااہل تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے سے بغاوت کی تو اس کی عمر کٹ گئی اور نسل منقطع ہو گئی۔ اب وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں میں پکڑا ہوا ہے۔ پھر معاویہ رونے لگا اور کہا کہ سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس کی بری موت دیکھی اور اس کے برے خاتمہ کا مشاہدہ کیا۔ یوں کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کی عترت کو قتل کیا اور شراب کو جائز کہا اور کعبہ کی برپادی کی۔ میں نے خلافت کا مخہاس نہیں چکھا اس لئے اس کی تلخی کو اپنے سر نہیں لیتا۔ تم جانو اور تمہاری خلافت جانے۔ اللہ کی قسم اگر دنیا اچھی ہے تو ہمیں اس کا کچھ حصہ ملا ہے اور اگر بدی ہے تو ابوسفیان کی اولاد کے لئے یہ برائی کافی ہے جو انہوں نے دنیا حاصل کی۔ پھر معاویہ بن یزید گھر میں چھپ گیا حتیٰ کہ چالیس دنوں کے بعد وفات پائی۔ (اصوات عن الہر ق)

دوسرا اور گھر کا گواہ

حضرت علامہ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن العزیز ﷺ نے انصاف کیا کہ یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے شخص کو پیش کوڑوں کی سزا دی۔

آخری فیصلہ

تمام امت مسلمہ کے علماء نے یزید کے ظالم اور فاسق ہونے کو اس لئے تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ۲۰ شوال میں شروع ہونے والی حکومت کو ساری امت کی برپادی کا باعث فرمایا اور یہ فرمایا کہ بعد حکمران نمازوں کو ضائع کرنے والے اور شہوت پرست ہوں گے اور جہنم کے طبق ”غی“ میں داخل ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ۲۰ شوال کی حکومت کے گزند سے تمہیں بچائے اور حضرت امام حسین ﷺ کے کربلا

میں شہید ہونے کی خبر دی اور فرمایا کہ جو شخص اس وقت موجود ہو وہ حسین کی نصرت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہؓ عام لوگوں میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ، اے اللہ! مجھے ۲۰ شوال کی حکومت کا زمانہ نہ پائے۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ۹۵ شوال میں ان کی وفات ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ہے مردمیدان

اب بھی ہم عام اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں سیدنا امام حسینؑ کے جھنڈے تلے اور ان کے زمرہ میں اٹھائے، یزید پرستوں کو چلچلی ہے کہ وہ بھی برس مردمیدان کھلے الفاظ میں پکاریں اور دعا مانگیں کہ ان کا حشر زیید، شر، اہن زیاد کے ساتھ ہو اور وہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں۔ ہم الہست اس دعا گو کی دعا پرستو بار آمین کہیں گے بلکہ عوام میں ان کی اس دعا کا خوب پر چار کریں گے۔ کوئی مردمیدان فقیر کا چلنچ قبول کرے تو فوراً مطلع فرمائے پیشگی شکریہ دا کرتا ہوں۔

سوال: قاضی ابو بکر ابن العربي نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یزید خلیفہ برحق تھا اور حضرت امام حسین باغی تھے، وہ اپنے نانا ﷺ کے حکم کے مطابق قتل ہوئے۔ (معاذ اللہ تعالیٰ)

جواب: اگر قاضی نہ کوئی نہیں اتنی بڑی جرأت کی تو اہل حق نے اس وقت اس کی خوب گوشنہ لی فرمائی، چنانچہ سیدی امام عبدالغفاری نابلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ومن مجاز نات ابن العربي الفقيه المالکی انه افتی يقتل رجل عاب لبس الاحمر لانه عاب لبسته لبس هار رسول الله ﷺ وقتل بفتنه كما في المطائح وهذا تهور غريب وقاد ام على سفك دماء المسلمين عجيب وسيخا صمة هذا القتيل غدا ديسوء بالخزي من اعتدى وليس ذلك باول تهور لهذا

الفتی و جراء ته و اقدامه فقد الف کتابی شان مولانا الحسین عليه السلام زعم فيه ان
یزید قتلہ بحق بسیف جده نعوذ بالله من الخذلان.

(شرح الطریقة المحمدیہ، جلد دوم، صفحہ ۵۳۳)

یعنی، ابن العربي فیقہ ماکلی کی ناموزوں باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص
نے سرخ لباس کو بردا کھا تو ابن العربي مذکور نے اس شخص کے قتل کرنے کا فتویٰ دیا کہ اس
نے ایسے لباس کو بردا کھا ہے جو لباس رسول اللہ ﷺ نے پہنا ہے، تو وہ شخص ابن العربي کے
اس فتویٰ پر قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح الطاعم میں مذکور ہے یہ انوکھی دلیری ہے اور مسلمانوں کی
خوازیزی پر عجیب اقدام ہے کل قیامت کے دن یہ مقتول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاشدار
کرے گا اور تجاوز کرنے والا رسوا ہو گا۔ یہ ابن العربي کا فتویٰ اس کی پہلی جرأت اور دلیری
اور اقدام نہیں بلکہ اس نے ہمارے مولیٰ حضرت حسین عليه السلام کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے
کہ یزید نے ان کو جائز طور پر قتل کیا اور ان کے ناتا کی تلوار سے ان کو قتل کیا۔ (اللہ تعالیٰ ایسے
خذلان سے ہم سب کو بچائے)

تبصرہ اویسی غفرلہ عليه السلام

ایک قاضی ابو بکر بچارے کی کیا تخصیص ہے علامہ ابن حجر عسکری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
یزید پرستوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہو گز رہے جو یزید کو معبد (اللہ) مانتا تھا۔ ہم اپنے
ذور کے یزید پرستوں سے ابیل کرتے ہیں کہ صرف قاضی ابو بکر کی عقیدت تک محدود
نہ رہو بلکہ آگے چلا گئے گا۔ اگر صرف قاضی صاحب تک محدود رہنا چاہتے ہو تو
پھر ہمارا جواب تمہارے لئے وہی کافی ہے جو حضرت سیدی نابلی قدس سرہ نے دیا یعنی
تم یوقوف ہو۔

اممہ عظام و علماء کرام عليهم السلام

صرف امام نابلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر ابن العربي کے خلاف نہیں ہیں بلکہ دیگر ائمہ عظام
اور علماء کرام بھی وہی کہتے ہیں جو علامہ عبدالغنی نابلی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ چند حالات
ملاحظہ ہوں:

۱)..... امام واقدی نے متعدد طرق سے روایت کی ہے کہ حضرت حظہ غسل الملائکہ کے
صاحبزادے عبداللہ عليه السلام نے ارشاد فرمایا:

والله ما خرجنا على یزید حتى خفنا ان نرمي بالحجارة من السماء ان رجالا
ينكح امهات الاولاد والبنات ولا خوات ويشرب الخمر ويدع الصلوة.

(تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۶۰)

یعنی، قسم بخدا یزید سے ہم نے اس وقت ہی بخاوت کی جب ہمیں اس بات کا ذرگئے
لگا کہ ہم پر آسان سے پھر بھیں گے۔ لوگ امهات الاولاد، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح
کرنے، شراب پینے اور نماز چھوڑنے لگ گئے تھے۔

۲)..... ذہنی، ابن تیمیہ کے شاگرد رشید نے لکھا:

ولما فعل یزید باهل المدینة مافعل مع شرب الخمر و اتیانه المنکرات اشتدد
علیه الناس و خرج علیه غير واحد ولم یارک اللہ فی عمرہ.

(تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۶۰)

یعنی، اور جب یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ نار و اسلوک کیا ساتھ ہی شراب و بد کاریوں
کا دور دورہ چلایا تو لوگ اس کے بااغی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت نہ فرمائی۔

فائدة: یہ امام ذہنی کی شہادت ہے جو ابن تیمیہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں اور خود

امام ابن تیمیہ یزید کے بارے میں نہایت زم خیال ہونے کے باوجود حضرت امام حسین عليه السلام

کو مظلوم و شہید اعتقاد کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

تمکن اول نک الظلمة الطغاة من سبط رسول الله ﷺ حتی قتلواه مظلوما
شهیدا (الی ان قال) فان مقصده من تحصیل الخیر ورفع الشر لم يحصل منه
شی. (منهج السنة، جلد ۲، صفحہ ۲۳۲۵۲۳۱)

یعنی، ظالمون سرکشوں نے نواسائے رسول اللہ ﷺ پر قابو پالیا۔ یہاں تک کہ انہیں قتل
کر دیا حالانکہ آپ مظلوم و شہید ہیں، آپ نے جو نیک مقصد کو حاصل کرنے اور یزید کے شر
کو دور فرمانے کا ارادہ کیا تھا وہ کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔

فائده :..... اس سے ثابت ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ کا یزید کے خلاف صدائے
احتجاج بلند کرنا اور اس کی ناپاک و ظالم حکمرانی کو ختم کرنا آپ کا نیک مقصد تھا آپ کا قتل
باغی کے طور پر نہیں مظلوم و شہید کے طور پر ہے۔ یزیدی دراصل ظالم و باغی تھا اور وہ عامۃ
الملین کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔

۳)..... امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں:

وقتل من قتل وبایع مسلم الناس على انهم خون لیزید يحكم في دمائهم و
اموالهم بما شاء وانهم اعبدله قن في طاعة الله ومعصيته۔

(فتح الباری، جلد ۱۳، صفحہ ۶۰۱)

یعنی، اور اہل مدینہ کے قتل عام کے بعد بقیہ لوگوں سے سلم بن عقبہ نے یزید کے حق
میں اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ یزید کے تابع دار ہیں گے اور یزید کو ان کے جاں و مال میں
اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہو گا اور ہر جائز و ناجائز بات میں یزید کے
فرمانبردار ہیں گے۔

سوال:..... جب یزید امامت و خلافت کے لئے منتخب ہو گیا تو پھر بیعت نہ کرنا بغاوت نہیں

تو اور کیا ہے؟

جواب:..... سرے سے یزید کی خلافت ہی غیر شرعی ہے تو پھر بغاوت کیسی۔ اگر بعض صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم نے کری تو امام حسین علیہ السلام نے سرے سے بیعت کی ہی نہیں تھی اس لئے کہ
یزید بیعت کا اہل ہی نہیں تھا۔ ان دونوں صورتوں میں حق بجانب امام حسین علیہ السلام ہیں چنانچہ
ماعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

وأجمعوا على أن الإمامة لا تعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر العول وكذا لو
ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة.

(مرقاۃ شرح مشکوہ، جلد ۷، صفحہ ۲۰۱)

یعنی، اہلسنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کافر مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا اور اگر
مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے تو وہ معزول ہو گیا اور اسی طرح باادشاہ اگر نماز اور نماز
کی تبلیغ چھوڑ دے اور اسی طرح وہ بدعت کا حامی ہو جائے تو وہ اپنے عہد سے معزول
ہو چکا۔

یعنی، اس پر فرض ہو گا کہ وہ کرسی اقتدار سے الگ ہو جائے یا عامۃ اسلامین اسے
زبردستی علیحدہ کر کے تبادل صالح شخص کو اپنا سربراہ ملک بنائیں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

وجب على المسلمين خلعه ونصب امام عادل ان امكفهم ذلك. (ج ۷، ص ۲۰۱)
یعنی، اگر مسلمانوں سے ہو سکے تو ایسے سربراہ کو علیحدہ کر کے اس کی جگہ نئے صالح شخص
کو سربراہ بنائیں۔

اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری و امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری
میں فرماتے ہیں:

الذى عليه العلماء فى امراء الجور انه ان قدر على خلعه بغير فتنه ولا ظلم
وجب . (عدة القارى، جلد ۲۲، صفحه ۱۵۹ وفتح البارى، جلد ۱۳، صفحه ۶)

یعنی، ظالم سربراہوں کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی فتنہ اور ظلم و زیادتی کے
بغیر انہیں علیحدہ کرنا ممکن ہو تو انہیں علیحدہ کرنا ضروری ہے۔

یہاں دراصل صحیحین کی ایک حدیث ہے جس کی شرح میں مندرجہ بالاقول نقل کیا گیا
ہے وہ حدیث یہ ہے:

وَإِن نَّازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرُوا كُفُرَ أَبْوَاهُعَنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

یعنی، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت سربراہ مملکت کی نافرمانی نہ کرو جب
تک کہ وہ ایسے کھلے کفر و معصیت کا اعلان یہ ارتکاب نہ کرنے لگے جس کے کفر و معصیت
ہونے کی تھارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے دلیل موجود ہے۔

گویا جب سربراہ مملکت اسلامیہ ایسے کھلے کفر و معصیت کا اعلان یہ مرتكب پایا جائے
جس کے کفر و معصیت ہونے پر کتاب و سنت کی روشنی میں دلیل موجود ہو تو ایسے سربراہ
مملکت کو ہٹانا اور اس کی سول نافرمانی ضروری ہے، چنانچہ امام حسینؑ نے یزید پلید کی
بیعت نہ کر کے اس حدیث پر عمل فرمایا۔

سوال: بخاری شریف میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اول جیش من امتی یغیر
مدينه قیصر مغفور لهم. یعنی، میری امت کا پہلا شکر جو قحطی نیہ کا جہاد کرے گا ان کے
گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

فائدہ: مہلب نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یزید غلیظہ برحق تھا کہ وہ قحطی نیہ
پر جہاد کرنے والے پہلے شکر کا سردار اور امیر تھا۔ اس لئے وہ بھی مغفور ہوا تو اس کا جنٹی ہوتا
ثابت ہو گیا تو جنٹی کی خلافت کو کیونکرنا جائز کہا جا سکتا ہے؟

فود: یزید پرستوں کے ہاں صرف یہی روایت اور مہلب کا استدلال ہے اور یہیں۔
اس حدیث کے جوابات اور تحقیق فقیر نے ”شرح حدیث قحطی نیہ“ میں لکھ دی ہے، مختصر
جبابات آتے ہیں۔

یاد رہے کہ جب مہلب بن امیر کا فرد ہے، وہ قوی تعصب کی بنا پر زبردستی سے یزید کو
اس حدیث سے جنٹی ثابت کر رہا ہے۔ محمد شین میں سے کسی نے بھی اس حدیث سے یہ نتیجہ
نہیں نکالا، بلکہ محمد شین نے مہلب کے اس استنباط کو غلط قرار دیا ہے۔ جیسا کہ تفصیل آتی ہے۔

جواب: حدیث شریف میں ہے:
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْمَسُ النَّارُ مُسْلِمًا رَأَى
أَوْ رَأَى مِنْ رَأَى. (رواہ الفرمذی۔ مشکوہ المصابیح صفحہ ۵۵۳)
یعنی، تبی اکرم ﷺ نے فرمایا، کسی ایسے مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس
نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی صحابی یا تابعی دوزخ میں نہیں جائے گا اس پر ہمارا
سوال ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اور ارتدا کی وجہ سے
قتل کئے گئے تھے کیا وہ دوزخ میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ تو مفترض یقیناً یہ جواب دے گا
کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں
معدب (عذاب میں) رہیں گے۔ پھر اس سے پوچھیں گے کہ حدیث تو یہ تاریخ ہے کہ کوئی
صحابی یا تابعی دوزخ میں داخل نہیں ہو گا اور تم کہتے ہو کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے وہ دوزخ میں
ضرور داخل ہوں گے تو تمہارا فتویٰ حدیث کے خلاف ہوا۔ لامحال خالف بجور ہو کر کہے گا کہ
جس نے مرتبے دم تک اپنے ایمان کو محفوظ رکھا دوزخ میں داخل نہیں ہو گا، خلاف ان لوگوں
کے جو مرتد ہو گئے کہ انہوں نے مرتبے دم تک اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھا۔ اسی لئے وہ جہنم

میں داخل ہوں گے۔

حدیث قسطنطینیہ اور یزید ﷺ

مجاہدین قسطنطینیہ کو جن صفات کی بنابر مغفور لہم کا انعام ملا، کیا ان صفات کو یزید نے مرتے دم تک محفوظ رکھا ہے۔

ہم نے دلائل سے لکھ دیا کہ یزید کے کرتوں دوزخیوں کے ہیں نہ کہ جنتیوں کے۔

مزید بر یزید ﷺ

حیرانی ہے کہ مخالفین یزید کی محبت میں اتنے اندھے ہیں کہ کہتے ہیں یزید غایفہ برحق تھا۔

بقول مخالفین ﷺ

بھلا حدیث سے یہ کہاں لکھتا ہے کہ یزید کی خلافت صحیح ہے کیونکہ جب یزید قسطنطینیہ پر چڑھائی کر کے گیا تھا اس وقت تک حضرت امیر معاویہ ﷺ زندہ تھے۔ ان کی خلافت تھی اور ان کی خلافت تھا حیات بالاتفاق علماء صحیح تھی۔ اسی لئے امام برحق جناب حسن ﷺ نے خلافت کو تفویض کی تھی۔ اس لشکر والوں کی بخشش ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کا ہر فرد بخشش جائے اور جنتی ہو۔

دوزخی جوان ﷺ

آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک شخص خوب بہادری سے لڑ رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا، وہ دوزخی ہے۔ بہشتی اور دوزخی ہونے میں خاتمه کا اختبار ہے۔ علاوہ ازیں یزید کے کرتوں نہایت ہی گندے تھے۔ بالخصوص بادشاہ ہونے کے بعد تو اس نے وہ گند پیٹ سے نکالے کہ معاذ اللہ امام حسین ﷺ کو شہید کروایا۔ اہل بیت کی اہانت۔ مردوی ہے کہ جب امام حسین کا سر مبارک آیا تو مردود کرنے لگا، میں نے بد رکا بدل لے لیا ہے۔ مدینہ منورہ پر چڑھائی

کی۔ حرم محترم میں گھوڑے باندھے۔ مسجد نبوی اور قبر شریف کی توہین کی، ان گناہوں کے بعد بھی کوئی یزید کو مغفور اور بہشتی کہہ سکتا ہے۔ امام قسطلانی نے کہا ہے کہ یزید امام حسین ﷺ کے قتل سے خوش ہوا اور راضی تھا۔ اور اہلبیت کی اہانت پر بھی اور یہاں مرمتواتر ہے اس لئے تم اس کے دوزخی ہونے میں توقف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں بھی علمائے کرام کی مختلف آراء ہیں۔

☆..... کردار کا کیا حال تھا کہ پناہ بخدا۔ تاریخ شاہد ہے کہ یزید نفسانی خواہش کا پورا جسم تصور یہ تھا۔ تقویٰ کے بجائے فقہ و فنور اس کی عادت بن گئی تھی۔ راہ حق میں جان قربان کرنے کی بجائے اخیار و ابرار کی جان ستانی اس کا مرغوب مشغل تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی محبت کی بجائے بھوت کے گھرانے سے اہتمائی عادوت و غرض رکھتا تھا بلکہ نبی اکرم ﷺ کی رضا کو اپنا مقصود بنانے کی بجائے وہ تمام امور انجام دیئے جو آپ کی ناراضگی کا باعث تھے جیسے اہل مدینہ کو قتل کرنا وغیرہ، شراب نوشی اور زنا کاری سے بچنے کی بجائے ان جرائم کا بے با کانہ ارتکاب کرنا۔ جفا کشی کی بجائے عیش و آرام کا دلدادہ تھا۔ میدان جہاد میں نمازوں کو قائم رکھنے کی بجائے گھر میں نمازوں کو ضائع کرتا تھا۔ رات کی عادت گزاری کی بجائے اس کی راتیں شراب نوشی اور زنا کاری میں بسر ہوتیں۔ اکثر اس کی یہ عادتوں احادیث نبویہ سے ثابت ہیں۔ امت مسلمہ کے تمام محدثین، مفسرین، متكلّمین، فقهاء اس کے فقہ و فنور پر متفق ہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس کا کفر بھی ثابت کیا ہے۔

☆..... بہر حال یزید کی فضیلت پر ذرہ بھر حدیث شریف سے کوئی دلیل نہیں۔ اس کی اس حدیث سے فضیلت کی کیا تخصیص ہے اس طرح سے تمام سیکی کرنے والےقطیعی جنتی ہوں اور اس کے لئے مغفور لہ کی بھی خصوصیت نہیں کیونکہ کسی خاص عمل کی بناء بر مغفور لہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے پہلے جس قدر گناہ کے تھے وہ اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیئے

اتکات علی الـ اـ نـهـاء مـرـتفـعـا بـرـیـرـمـانـ عنـدـی اـمـ کـلـثـومـ اـمـ کـلـثـومـ اـمـ اـمرـأـهـ وـهـیـ
ابـنـتـهـ عـبـدـالـلـهـ بنـ عـامـرـ فـبـلـغـ مـعـاوـيـةـ شـعـرـهـ فـاقـسـمـ عـلـیـهـ لـیـلـحـقـنـهـ فـسـفـیـانـ فـیـ
ارـضـ الرـوـمـ لـیـحـیـیـهـ مـاـصـابـ النـاسـ . (ابـنـ اـشـیرـ، جـلـدـ ۳ـ، صـفـرـ ۱۹)

یعنی، اس سال میں اور بعض نے کہا۔ ^{۲۵} میں معاویہ نے بلا دروم کی طرف جہاد کے لئے ایک بڑا شکر روانہ کیا اور اس کا امیر سفیان بن عوف کو بنایا اور اپنے بیٹے یزید کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تو یزید بیٹھ رہا اور حیلے بہانے کے تو معاویہ ^{۲۶} اس کے بھجنے سے رک گئے۔ اس شکر میں لوگوں پر بھوک اور بیماری کی مصیبت آئی تو یزید نے خوش ہو کر یہ شعر پڑھا، مجھے پرواہ نہیں کہ ان شکروں پر یہ بخار و تنگی کی بلا میں ممکن فرقہ وہ میں آپریں۔ جب کہ میں مقام دری مرآن میں اوپنی مند پر تکیہ لگائے۔ ام کلثوم کو اپنے پاس لئے بیٹھا ہوں۔

ام کلثوم بنت عبد اللہ بن عامر یزید کی بیوی تھی، یزید کے یہ اشعار حضرت معاویہ ^{۲۷} تک جا پہنچ تو قسم کھائی کہ اب میں یزید کو اس جہاد میں سفیان بن عوف کے پاس روم کی سر زمین میں ضرور بکھجوں گا تا کہ اسی ان مصائب کا حصہ ملے جو وہاں کے شکروں کو کمل رہا ہے۔

یعنی، معاویہ ^{۲۸} نے یزید کی بے انتہا عیش و عشرت دیکھی تو یزید کو سزا کے طور پر اس شکر میں بھیج دیا کہ وہاں جا کر اس کو مصائب کا حصہ ملے اور اس کی عیش پرستی کم ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ^{۲۹} میں سے پہلا قسطنطینیہ پر مسلمانوں کا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ لہذا یہ پہلی لڑائی ہے۔

علام ابن اشیر نے تھائی سے پردہ ہنادیا اور اصل بات کو بے نقاب کر دیا کہ قسطنطینیہ کا جہاد کرنے والا پہلا شکر سفیان بن عوف کی ماتحتی میں چلا گیا۔ یزید اس میں موجود نہیں تھا،

جانکیں گے اس عمل صالح کے بعد جو گناہ کرے گا ان کی معافی کا کوئی وعدہ نہیں۔ کیونکہ ایسا کوئی عمل صالح نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد عامل کو ہر قسم کے گناہ کرنے کی اجازت ہو۔
☆..... یزید نے اگر صدق و اخلاص سے قسطنطینیہ کے جہاد میں شرکت کی تو اس کے سابق گناہ بخش دیئے گئے اس کا مطلب نہیں کہ اس کو اس جہاد کے بعد چھٹی ہو گئی کہ تم جس قسم کے گناہ آئندہ کرتے رہو گے وہ سب معاف ہوتے رہیں گے۔

☆..... علاوہ ازیں قسطنطینیہ کی جنگ بھی امیر معاویہ ^{۲۰} کے دور خلافت میں عرصہ دراز پہلے ہوئی تھی پھر جب اس نے بادشاہی پر قبضہ کیا اور اپنے دور میں وہ سب گناہ کئے جن کی نبی اکرم ^{۲۱} نے خبر دی تھی، تو یہ سب گناہ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں، جب کہ نبی کریم ^{۲۲} نے ^{۲۰} کے بعد حکمران کے بد کردار اور جھوٹی ہونے کی خبر دی ہے۔

غزوہ قسطنطینیہ میں یزید امیر نہیں بھگوڑا ہے
مؤمنین کا جہاد قسطنطینیہ کے امیر جیش سے اختلاف ہے بعض مؤمنین نے یزید کا امیر جیش ہوتا بیان کیا ہے اور بعض نے سفیان بن عوف کا امیر ہوتا بیان کیا ہے، ابن اشیر نے سفیان بن عوف کا امیر ہوتا جو بیان کیا ہے وہی صحیح ہے بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاد میں یزید کی شرکت مجبوراً بلکہ سزا کے طور پر تھی، چنانچہ ابن اشیر نے کہا ہے۔

وفي هذا السنة وقيل سنة خمسين سير معاویه جيشاً كيشفاً الى بلاد الروم
للغزوة وجعل عليهم سفیان بن عوف وامر ابنه یزید بالغزوة معهم فتناول
واعتقل فاما سک عنه ابوه فاضباب الناس في غزواتهم جوع ومرض شديد
فانشأ یزید يقول.

۷۔ ما ان ابالى بِمَالَقْتَ حَمُوَعَهُمْ بِالْفَرَقْدَوْفَةِ مِنْ حَمَىٰ وَمِنْ حَرَمْ اذَا

مسلمانوں پر بھوک اور ختیاری کے پہاڑ گر ہے تھے اور یزید دیر میر آن میں قیش اور ام کلثوم کی ہمسٹری کے مزے لے رہا تھا پھر وہ سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ اب کیا کوئی داشمندیہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس شکر کے لئے جو مغفرت کا وعدہ ہے اس میں یزید بھی شریک ہے کیا مغفرت ان لوگوں کے لئے ہے جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ نوٹ رہے ہیں یا اس کے لئے جو سربز و شاداب مقام پر ہمسٹری کے مزے اڑا رہے کہ مجھے ان مسلمان مجاہدین کے مصائب و شدائد کی کوئی پرواہ نہیں۔

سوال: عن ابن عمر انه لما خلع أهل المدينة يزيد جمع حشمه و ولده وقال انى سمعت رسول الله ﷺ يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيمة وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وانى لا اعلم غدوا اعظم من ان بنایع رجال على بيع الله ورسوله ثم نصب له القتال۔ (رواه البخاري)

یعنی، جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت تو این عمرؑ نے اپنی اولاد کو اور اپنے غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنائے کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کا جھنڈا نصب کیا جائے گا اور ہم اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر چکے ہیں اور اس سے بڑی عہد شکنی اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم ایک شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کریں پھر اس سے لڑیں۔

فائدہ: بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمرؑ یزید کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کا نام دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ برحق تھا اس لئے حضرت امام حسین پاک کا خروج ناجائز ثابت ہوا۔

جواب نمبر ۱: حضرت ابن عمر اور حضرت حسین پاکؑ کی صورتیں مختلف ہیں۔ حضرت

ابن عمرؑ تو یزید کی بیعت کر چکے تھے پھر اس بیعت کو توڑنے اور اس سے لڑنے کو ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ یہ عہد شکنی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت حسین پاکؑ نے تو روز اول سے یزید کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ حضرت حسین پاکؑ کا لڑنا کو عہد شکنی نہیں تھی جس کے توڑنے یا نتوڑنے کا سوال پیدا ہوا۔

جواب نمبر ۲: حضرت ابن عمرؑ کا یزید کی بیعت کو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی بیعت کہنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؑ گوشہ نشین عابد تھے وہ کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے ان کو یزید کے فتن و فجور کا تفصیلی علم نہیں تھا اس لئے یزید کو خلیفہ مان رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو یزید کی خبائیں معلوم ہوں لیکن بیعت کر بیٹھنے کے بعد خلع کو ناجائز جانے ہوں۔ کیوں کہ آپ مجھ تھے مجھ تھے مصیب بھی ہوتا ہے اور محظی بھی۔

ایسے ہی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لیا جاتا ہے مشاہیر تابعین کا ان کی وجہ یہی تھیں۔ نہ یہ کہ وہ یزید کو امام برحق بحکمت تھے بلکہ دل سے ہماری طرح یزید اور یزید یوں کو بُری مخلوق بحکمت تھے اور بر ملا ان کی مذمت کرتے۔ چنانچہ خود حضرت ابن عمرؑ کی روایت ملاحظہ ہو:

حضرت عبد الرحمن بن أبي نعمر فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؑ سے سنا، جب آپ سے ایک شخص نے حرم کے متعلق پوچھا، شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہ پوچھا، کیا حرم (یعنی، احرام پہننا ہو اپنے) کمی مار سکتا ہے؟ تو فرمایا:

قال اهل العراق یسئلـونـی عن الذباب وقد قـتلـوـا اـبـنـ رـسـوـلـ اللـهـ وـقـالـ رسول اللـهـ هـمـاـ رـیـحـانـیـ مـنـ الدـنـیـاـ (بـخـارـیـ وـمـشـکـوـرـ)

یعنی، عراقیوں! مجھ سے مکھی کے متعلق پوچھتے ہو اور رسول اللہ ﷺ کی صاحزادی کے بیٹے

کوئل کر چکے ہو۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔

مزید سوالات و جوابات فقیر کی کتاب ”شرح حدیث قطعنیہ“ (مطبوع، قطب مدینہ بلشیرز، کراچی) کا مطالعہ کیجئے۔

بذا آخر مرار قلم افقر القادری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفران

بہاول پور۔ پاکستان

اذوالحجہ ۱۴۰۹ھ۔ ۱۳ جولائی ۱۹۸۹ یوم الجمعۃ المبارک بجعہ شام



ناشر

ادارہ تالیفات اویسیہ اسلامی کتب کا مرکز

محکم دین سیرانی روڈ سیرانی مسجد بہاول پور

رابطہ نمبر: 0300-6820890، 0321-6830592

مسودہ دستی بھجے کتاب بھجے

کتاب شائع کرنا
اب بہت ہی آسان!



کیا آپ کتاب مسلح کرنا چاہتے ہیں?
کپور



لے جائی
لے جائی
لے جائی

ڈیزائنگ

کپور

پروفیشنل

ادارہ تالیفات اُویسیہ

خواجہ حکم الدین روڈ ندویہ امنی مسجد، بہاولپور

پرنٹنگ

سب تاریخ ذمہ داری

بائنسنگ

خدا کتاب کے لئے تاریخ احمد پڑھنے

خواجہ حکم الدین اُویسی رودو، بہاولپور
0300-8830592, 0332-7452346, 03216820890

ادارہ تالیفات اُویسیہ

ART THINKERS 061-4517975

